

سوانح غوث اعظم

مصنف

فیض ملت، شمس المصنفین، استاذ العرب وابن مفسر اعظم پاکستان

مدظلہ العالی

حضرت علامہ ابوالصالح

مفتی محمد فیض حبیبی رضوی

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلی و نسلم على رسله الکریم

پیش لفظ

کتاب اقطاب اربعہ میں سے قطب اول یعنی قطب الاقطب، غوث الاغوث میر میراں، پیر پیراں، سیدنا غوث اعظم، شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی ﷺ کی سوانح کا یہ مختصر ساختا کہ ہے، باقی تین اقطاب
(۱) سیدنا شیخ سید احمد رفاعی (۲) سیدنا شیخ احمد بدواری (۳) سیدنا شیخ دسوی رحمہم اللہ تعالیٰ کے اذکار جلیلہ آئندہ اشاعت میں ہوئے انشاء اللہ۔

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری

ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاول پور، پاکستان

۲ جمادی الآخر ۱۴۲۱ھ / ۲۰۰۰ء بروز ہفتہ

تمہید

بسم اللہ الرحمن الرحیم

**الحمد لله الذي افتح لاوليائه طرق الهدى واجرى على ايديهم الخيرات ونجاهم من الردى ،
فمن اقتدى بهم انتصر واهتدى ومن عرج عن طريقهم انتكس وتردى واهلى واسلم على سيدنا
محمد المنقذ من الضلاله والردى وعلى آله واصحابه اعلام الهدى**

اما بعد! بفضلہ تعالیٰ وکرمہ اس سال ۱۴۲۱ھ میں ربيع الاول و جمادی الاولی میں سفر مبارک حرمین اور شام و عراق کے مزارات کی زیارت اور دولت عمرہ نصیب ہوئی۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدال قادر جیلانی محبوب سبحانی قطب صداقی ﷺ کے دربار و دوبار میں حاضری کا شرف نصیب ہوا تو مشرقی جانب کے دروازہ مبارک میں کتب فروش سے کتاب "مناقب اقطاب اربعہ" (عربی) خریدی۔ اور اس کا ہدیہ امیر قافلہ حضرت الحاج محمد اولیس قرنی صاحب زیدہ مجدد نے ادا کر کے فرمایا کہ اس کا اردو ترجمہ ہو جائے تو اس کی اشاعت میرے ذمہ ہوگی۔ فقیر نے اسی وقت اس کے ترجمہ مع اضافات کا آغاز کر دیا کچھ حصہ سفر میں ترجمہ کیا بقا یا بہاولپور واپس آ کر مکمل کیا۔

الحمد لله على ذلك وصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم

مقدمہ از مصنف کتاب

اُمم اسلامیہ کے خوش بخت لوگ ہمیشہ اپنے اسلاف کے تذکرے و سوانح بیان کرتے رہتے ہیں ان سے ان کی اصلی غرض و غایبت عظمت و عبرت کا حصول ہوتا ہے اور تاریخ اسلام ایسی سوانح و تراجم اور تذکروں سے بھری پڑی ہے بالخصوص وہ مشاہیر جو تقویٰ و طہارت اور خداخونی سے آرستہ و پیراستہ زندگیاں بسر فرمائے ان محبوبانِ خدا کے سرتاج سیدنا شیخ عبدال قادر جیلانی محبوب سبحانی اور سید احمد رفاعی اور سید ابراهیم دسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہیں۔

میری یہ کتاب انہی حضرات کے تراجم و سوانح پر مشتمل ہے کیونکہ بہت سے لوگ ان کے اکثر حالات سے بے خبر ہیں اگر انہیں کچھ معلوم ہے تو معمولی، بلکہ جب میں نے ان کے حالات و سوانح پر کچھ تصدیفیں اور کتاب میں پڑھیں تو خرافات و بدعاں و مبالغات اور جھوٹ کے پلندوں سے بھر پور تھیں جن کے پڑھنے سے ان بزرگوں کی عظمت کے بجائے ان کی بے قدری اور کمی شان کی دلیل بن سکتی ہیں اسی لئے میں نے یہ مجموعہ تیار کیا تاکہ ان کی اصل حقیقت کا اکٹشاپ تام اور متنی بر صواب ہو۔ امید ہے کہ میری یہ کاوش محبین اولیاء کاملین کے ہاں قدر و منزلت سے دیکھی جائیگی۔

(انشاء اللہ تعالیٰ) وهو الموفق

اضافہ اویسی غفران

مردانِ حق کے تذکرے را حق کی طرف بلا تے ہیں اور طالبانِ حق کو منزل مقصود کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بندگانِ خدا کی داستانیں ذکر و فکر، کیف و مستی، عشق و محبت، صبر و استقامت، زہد و عبادت، تسلیم و رضا، توکل و تقویض اور اخلاص و مرقدت کی داستانیں ہیں لہذا انہیں پڑھنے والا منتشر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قرآن و حدیث نے ایمان و عرفان کا جو مفہوم بیان کیا ہے عمل صالح اور خلقِ حسن کا جو تصور پیش کیا ہے، زندگی گزارنے کے جو آداب سکھائے ہیں۔ حق و صداقت کا علمبردار بن کر اس کی حفاظت و اشاعت کے سلیقے تلقین فرمائے ہیں ان سب کی عملی تفسیر حضرات اولیائے کرام علیہم الرحمہ کی سیرت میں ملتی ہے۔

انسان جب تلخی حالات میں محصور ہو جاتا ہے۔ اپنے پرائے بن جاتے ہیں زبان پر پھرے بٹھادیئے جاتے ہیں۔ فضیر کے مطابق عمل کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت جگر گوشہ رسول سیدنا امام حسین کے سچے غلام حضرت امام اعظم ابوحنیفہ، سیدنا امام احمد بن حنبل اور حضور مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہم، کی داستانیں دلوں کو ولولہ تازہ بخشتی ہیں اور وقت کے جابر سلطانوں کے سامنے کامہ حق کہہ کر بہترین جہاد کے لئے تیار کرتی ہے۔ ان کی شب بیداری، نفس کشی اور لہبیت کے قصے غفلت و شہوت کے پردے چاک کر دیتے ہیں اور حرص و ہوا میں گھرا ہوا انسان ہر دام سے نکل کر ”طاڑلا ہوتی“ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ سنگدل لوگ سوز و گداز سے بھرے ہوئے ان واقعات سے رقت قلب کی دولت حاصل کرتے ہیں اور غرور و تکبیر کے پیکر عجز و نیاز سے بھرہ ور ہوتے ہیں۔ حضرت فرید الدین عطار قدس سرہ العزیز اپنی بے مثال کتاب ”ذکرۃ الاولیاء“ کی وجہ تصنیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

قرآن و حدیث کے بعد اولیائے کرام کا کلام ہی افضل ترین ہے۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کا کلام دنیا کی محبت سے نکال پھینکتا ہے، دوم یہ کہ ان کے کلام سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے، سوم یہ کہ ان کے کلام کی برکت سے خدا کی دوستی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، چہارم یہ کہ ان حضرات کا کلام سننے سے زادہ آخرت جمع کرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے لہذا انہی چند خصوصیات کی بناء پر اس تصنیف کو ضروری خیال کیا تاکہ یہ نامدوں کو مرد، مردوں کو شیر، شیروں کو فرد اور فرد کو اہل درد بنا دے۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ سے سوال کیا گیا کہ جس وقت دنیا میں اولیائے کرام کا وجود نظر نہیں آئے گا کیا کرنا چاہئے تاکہ لغویات و خرافات سے محفوظ رہ سکیں؟ فرمایا اولیائے کرام کے حالات کا ایک جزو روزانہ پڑھ لیا کرنا۔

(ذکرۃ الاولیاء)

حضرت بعلی وقاری سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اولیائے کرام کے حالات سننے کے بعد ان پر عمل پیرا بھی نہ ہو تو کیا (محض سننے سے) فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ فرمایا پھر بھی دوفائدے ہیں۔
(۱) اگر اس میں حقیقت کی طلب ہوگی تو اس میں اضافہ ہو جائے گا۔
(۲) مغرور بندے کے غرور میں کبھی پیدا ہوگی۔

شیخ امام عارف ربانی ابو یعقوب یوسف بن ایوب صد افی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا یا حضرت! جب اہل اللہ ہم سے روپوش ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم سلامت رہ سکیں۔ فرمایا ان کی باتیں ذہراتے رہو۔ ایک ولی کامل نے فرمایا تھا کہ کاش کوئی ایسا شخص ملے جو بندگانِ خدا کی باتیں کرتا جائے اور میں سنتا جاؤں یا میں سنتا جاؤں اور وہ سنتا جائے۔ اگر جنت میں اہل اللہ کے متعلق گفتگو نہیں ہوگی تو ہمیں جنت سے کیا کام (رسالہ قدسیہ از حضرت خواجہ محمد پارسا علیہ الرحمۃ)

اگر یہ تذکار را حق کی طرف رہنمائی نہ کرتے تو آخر کتاب و سنت میں انبیاء اور اولیائے عظام کا ذکر کیوں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خداوند کریم کو اپنے محبوبوں کا ذکر اس قدر محبوب ہے کہ قرآن حکیم میں ان سے تعلق رکھنے والے بعض جانوروں کا بھی ذکر بڑے اہتمام سے فرمادیا۔

اصحاب الکھف امیت عیسوی کے اولیاء ہی تو تھے۔ ان کی نسبت سے سورۃ کاتم سورۃ الکھف تھا۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ان

کے وفادار گئے کا ذکر بھی فرمادیا۔ سورۃ البقرہ میں جس ذبح شدہ گائے کا ایک نکڑا لگا کر بنی اسرائیل کا مردہ زندہ کرنے کا واقعہ آیا ہے۔ وہ بھی ایک مرد حق کی گائے تھی اور اسی کی نسبت سے سورۃ کو سورۃ البقر (یعنی گائے کی سورۃ) کہا گیا۔ دنیا میں اولیاء اللہ کے عرس منائے جاتے ہیں یا ان کے حالات پر کتاب میں لکھی جاتی ہیں تو یہ اسی سنتِ الہیہ کے مطابق ہے بلکہ **فاذ کرو نی اذکر کم** ” (سو تم میری یاد کرو، میں تمہارا چڑ چاکروں گا۔ البقرہ) کے وعدے کی تجھیل ہے۔

الله والوالوں کے تذکرے رحمتِ خداوندی کو جوش میں لاتے ہیں اور ان کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سرکار
دو عالم ﷺ فرماتے ہیں: ”ذکر الانبیاء من العبادة وذکر الصالحین کفارۃ وذکر الموت صدقۃ وذکر القبر
يقربكم من الجنة۔“ (الجامع الصغير)

ترجمہ

روایت ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، سے کہ حضور ہادی کو نین میں قیلے نے فرمایا، انبیاء کا ذکر عبادت کا حصہ ہے اور صالحین (یعنی اولیاء اللہ) کا ذکر (گناہوں کا) کفارہ ہے اور موت کا ذکر صدقہ ہے اور قبر کو یاد رکھنا تمہیں جنت کے قریب کر دے گا اولیائے کرام کے تذکرے سے ان کی محبت اپیدا ہوتی ہے اور چونکہ یہ محبت مخصوص خدا کے لئے ہوتی ہے لہذا ایمان کامل کی علامت اور بہترین عمل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں وارد ہے

۔ اور یہ محبت جنت کی چابی ہے۔

حب درویشان کلید جنت است○ دشمن ایشان سزای لعنت است

(٤) من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع فقد استكمل الايمان۔ (ابوداودشريف)

ترجمہ

جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے بُغض رکھا اور اللہ ہی کے لئے نہ دیا تو اس نے (اپنا) ایمان مکمل کر لیا۔

ان احب الاعمال الى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله - (احمد،ابوداود)

بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے بُغض ہے۔

(بشكريه، انوار لاثاني)

پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر

مصنف کتاب نے آپ کے القاب میں لکھا کہ سیدنا السندا القطب الاوحد شیخ الاسلام زعیم العلماء
وسلطان الاولیاء قطب بغداد الباز اور شہب سیدی ابو صالح محی الدین عبدالقادر الگیلانی الحسنی
اباوالحسینی اُما حنبلی مذہب رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

نسب شریف از جانب والد گرامی قدس سره

آپ کا نسب والد کی طرف سے یوں ہے شیخ محبی الدین عبدالقدیر بن ابو صالح موسیٰ بن عبد اللہ الجیلی بن یحییٰ الزاهد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ الجون بن عبد اللہ (المحض) بن حسن المثنی بن امام حسین بن امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم -

(آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ، کنیت ابو الحیر اور لقب امتہ الجبار ہے) سیدہ فاطمہ بنت عبد اللہ الصومعی بن ابو جمال بن محمد بن طاهر بن ابو عطاء بن عبد اللہ بن ابوبکر الصادق بن امام محمد باقر بن علاؤ الدین بن محمد بن علی بن موسی کاظم بن حضرت امام جعفر صادق بن امام زین العابدین بن امام حسین بن امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اس طرح آپ پدری کاظم سے حسنی اور مادری حیثیت سے حسنی سید ہیں۔

اضافہ اویسی غفرانہ

آپ کو یہود و رواض کے سواتمام فرقے نجیب الطرفین مانتے ہیں۔ تفصیل و تحقیق اور یہود و رواض کی تردید فقیر نے اپنی کتاب "اماٹتہ الاذی عن غوث الوری" اور "کیا غوث اعظم سید نہیں؟" میں لکھ دی ہے۔

نجیب الطرفین

جس خوش بخت کی نسبت نبی حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متصل ہوا سے نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ (اکثر کتب میں ابو صالح اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت مرقوم ہے لیکن بعض کتب میں یہ کنیت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی مذکور ہے۔ **والله تعالیٰ اعلم (اویسی غفرانہ)**)

حضور غوث اعظم نے اپنے نسب پاک کے لئے خود فرمایا "انا نجیب الطرفین" میں نجیب الطرفین ہوں۔

صدیق اکبر سے نسبی رشته

حضور غوث اعظم کی نانی پاک کا نام ام سلمہ تھا ان کا نسب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یوں ہے، ام سلمہ بنت محمد بن امام طلحہ بن امام عبد اللہ ابن امام عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم

سیدنا عمر فاروق سے رشته نسبی

عبد اللہ بن المظفر کی والدہ کا نام حفصہ بی بی ہے وہ بی بی عبد اللہ بن سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن المظفر سے تعلق کا بیان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ذکر خیر میں آتا ہے۔

سیدنا عثمان بن عفان سے رشته نسبی

عبد اللہ الحض رضی اللہ عنہ حضور غوث اعظم کے جدتاسع ہیں اور ان کا لقب الحض بھی اسی لئے ہے کہ محض بمعنی خالص ہے اور آپ خالص بائیں معنی ہیں کہ آپ از جہت اب و ام موالی سے خالص ہے کیونکہ آپ کے والد گرامی حسن مشنی بن سیدنا حسن بن علی المرتضی (رضی اللہ عنہم) ہیں اور آپ کی والدہ فاطمہ ہیں جن کا نکاح آپ کے والد کی وفات کے بعد عبد اللہ بن المظفر بن عمر بن عثمان رضی اللہ عنہم سے ہوا۔

فائده

اس اعتبار سے حضور غوث اعظم کا نسبی رشته جملہ خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم سے ہے اور اس طرح کے رشته کا اتصال سوائے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کسی خوش بخت کے حصہ میں نہیں آیا۔ **(ذلک فضل اللہ یؤتیه من**

آپ کی ولادت ۷۲۰ھ کے ۱۵ء میں بینق شہر میں ہوئی یہ بلاوجیلان میں ایک قصبہ ہے یہ ایران کے صوبہ طبرستان کے بلاوجیلان کے ایک قصبہ کا نام ہے۔

علامہ شیخ شمس الدین بن ناصر بن دش Qi رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور غوث اعظم بلده جیل میں ۷۲۰ھ میں پیدا ہوئے اور جیل دو ہیں:

(۱) بلاودیلم کے قریب میں ایک وسیع علاقہ ہے اور دیلم بلاوکشیرہ پر مشتمل ہے اس علاقہ میں اس سے بڑا اور کوئی شہر نہیں۔

(۲) بلداشخ عبد القادر رضی اللہ عنہ اسی کو الکلیل بھی کہا جاتا ہے دکاف (عجمی) مشوبہ بجیم یعنی گیلان وجیلان۔

تعلیم و اسماء اساتذہ

جب حضور غوث اعظم ﷺ کو معلوم ہوا کہ طلب اعلم ہر مسلمان پر فرض ہے تو آپ نے علمائے اسلام کی طرف رجوع کیا کہ ان کے چشمہ فیوضات سے بہرہ ور ہوں آپ نے قرآن مجید پڑھ کر مندرجہ علماء سے علوم و فنون حاصل کئے۔

- (۱) ابوالوفاء علی بن عقیل حنبلی (۲) ابوالخطاب محفوظ الكلوذانی حنبلی (۳) ابوالحسن محمد بن قاضی ابی یعلیٰ محمد بن الحسین بن محمد بن الفراء حنبلی (۴) قاضی ابو سعید بعض نے ابو سعید المبارک بن علی المخزومی حنبلی مذہباً اصولاً و فروعاً، اور علم الادب (۵) علی ابی زکریا یحییٰ بن علی تبریزی سے پڑھا اور علم الحدیث ایک بہت بڑی جماعت سے حاصل فرمایا۔ مجملہ ان کے یہ حضرات ہیں (۱) ابو غالب محمد بن الحسن الباقلاني (۲) ابو سعید محمد بن عبدالکریم بن خشیشا (۳) ابو لفنا نام محمد بن محمد بن علی بن میمون الفرسی (۴) ابوبکر احمد بن المظفر (۵) ابو جعفر بن احمد بن حسین القاری السراج (۶) ابو القاسم علی بن احمد بن بنان الكرخی (۷) ابو طالب عبدالله بن محمد ابن یوسف (۸) اور ان کا ابن عم عبد الرحمن بن احمد (۹) ابو البرکات هبة الله بن المبارک (۱۰) ابو العرام محمد بن المختار (۱۱) ابو نصر محمد (۱۲) ابو غالب احمد (۱۳) ابو عبد الله یحییٰ اولاد علی البناء (۱۴) ابوالحسن بن المبارک بن الطیور (۱۵) ابو منصور عبد الرحمن العزا (۱۶) ابو البرکات طلحہ قولی وغیرہم (رحمہم اللہ تعالیٰ)

اضافہ اویسی غفرانہ

حضور غوث اعظم ﷺ کے اساتذہ میں شیخ حماد بھی ہیں ان سے آپ کے متعلق عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں بطور نمونہ ملاحظہ ہوں۔

- (۱) شیخ ابوالنجیب سہروردی بیان کرتے ہیں کہ ۷۲۳ھ کا واقعہ ہے کہ میں ایک وقت بغداد میں حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے ایک طویل اور عجیب تقریر کی تو شیخ حماد نے فرمایا: ”عبد القادر! تم عجیب عجیب تقریریں کرتے ہو۔ تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ خدا تعالیٰ تمہاری کسی بات پر موافقہ کر لے۔“ تو حضور مددوح نے اپنا ہاتھ آپ کے سینہ پر رکھ دیا اور کہا آپ نور قلب سے ملاحظہ فرمائیے کہ میری ہتھی پر کیا لکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ اٹھالیا، اس پر شیخ حماد نے فرمایا کہ میں نے ان کی ہتھی میں لکھا دیکھا ہے کہ

انہوں نے اپنے پروردگار سے ستر بار عہد لیا ہے کہ وہ ان سے موافق نہ کرے گا۔ پھر شیخ موصوف نے فرمایا کہ اب کوئی مضافات نہیں۔ **ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء والله ذوالفضل العظیم۔**

(۲) شیخ عبداللطیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سُنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ شیخ عزاز متورع البطحی سے بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک جمی نوجوان عبد القادر داخل ہوا ہے۔ یہ نوجوان عنقریب نہایت بیت و عظمت و جلال و کرامت کے ساتھ ظاہر ہو گا۔ اور حال و احوال اور درجہ محبت میں سب پر غالب رہے گا۔ تصرفاتِ کون و فساد سے سونپ دیا جائے گا۔ بڑے چھوٹے سب اس کے زیر حکم ہوں گے۔ قدر منزلت میں اسے قدم رانج اور معارف حقائق میں پید بیضا حاصل ہو گا۔ مقام حضرت القدس میں زبان کھول سکے گا۔ آپ کے طالب علمی کے عجیب و غریب واقعات کی فہرست طویل ہے۔ فقیر نے چند واقعات اپنی کتاب "اکابر کی طالب علمی" میں لکھ دیئے ہیں۔

بغداد شریف میں ورود

مصنف کتاب نے فرمایا، شیخ محبت الدین محمد بن النجاشی نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ائمہ مسلمین میں سے ایک ہیں۔ آپ صاحبِ کراماتِ ظاہر ہیں آپ بغداد میں ۱۰۹۵ھ / ۱۶۸۸ء میں تشریف لائے جب کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک اٹھارہ سال تھی، فقہ، احکام الاصول والفروع والمناظرہ وغیرہ اور سماع حدیث اور وعظ و دیگر علوم و فنون حاصل کئے یہاں تک کہ آپ ہر فن میں فائق ہوئے پھر خلوة و انقطاع و ریاضت و سیاحت اور شب بیداری وغیرہ اختیار فرمائی یعنی علوم ظاہرہ کی تکمیل کے بعد علوم باطنہ میں مشغول ہوئے۔

آپ کے دورانِ تعلیم وغیرہ میں بغداد کا خلیفہ مستظر باللہ ابوالعباس احمد بن المقتدی با مراللہ ابوالقاسم عبد اللہ عباسی تھا۔ حضور غوث اعظم عبد القادر رضی اللہ عنہ اسی سال بغداد تشریف لائے جس سال تھی کی وفات ہوئی۔

اضافہ اویسی غفرلنہ

حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے حالات میں یہ مشہور ہے کہ جب آپ کی اٹھارہ سال عمر ہوئی تو اشارہ غیبی سے عشق الہی کے جذبہ نے جوش مارا آپ نے والدہ ماجدہ سے تکمیل و تکمیل علم کے لئے بغداد جانے کی اجازت طلب کی سیدہ فاطمہ عارفہ کاملہ تھیں، ہزار دعاوں کے ساتھ حضور غوث اعظم کو سفر بغداد کی اجازت دی، اور جاتی دفعہ چالیس دینار حضور کی بغل کے نیچے گدڑی میں رکھ کر سی دیئے۔

رخصت کرتے وقت آپ کی والدہ محترمہ نے نصیحت فرمائی کہ بیٹا ہمیشہ حج بولنا، اور جھوٹ کے پاس بھی مت جانا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے صدق دل سے والدہ محترمہ سے وعدہ فرمایا کہ میں ہمیشہ آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ والدہ سے رخصت ہونے کے بعد حضور بغداد جانے کے لئے ایک قافلے کے ساتھ ہوئے جو بغداد جا رہا تھا، راستہ میں ترک کے علاقہ میں سائٹ قزاقوں کے ایک جگتے نے جن کا سردار احمد بدواری تھا (یہ وہ شیخ سید احمد بدواری نہیں جن کا ذکر خیر اسی کتاب میں آگے آ رہا ہے اویسی غفرلنہ) قافلے کا سارا سامان لوٹ لیا۔ آخر ایک ڈاکو نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے جو ایک طرف خاموش کھڑے تھے، پوچھا کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو حضور غوث پاک نے بلا خوف و ہراس صاف بتا دیا کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں، لیکن ڈاکو کو یقین نہ آیا اور وہ آگے نکل گیا۔ اسی طرح ایک دوسرے ڈاکو نے بھی آپ سے یہی سوال دریافت کیا، تو آپ نے پھر صاف صاف بتا دیا، کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں، لیکن وہ بھی مذاق سمجھ کر چلا گیا۔

<http://www.alahazrat.net> جب ڈاکو سردار کے پاس پہنچے تو ان دو ڈاکوؤں نے سرسری طور پر اس واقعہ کا ذکر کیا تو سردار نے کہا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاو۔ جب حضور کو سردار کے پاس لایا گیا تو اس نے دریافت کیا کہ لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے میں تمہارے دو ساتھیوں کو بتاچکا ہوں، سردار نے پوچھا کہ کہاں ہیں، تو آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ آخر سردار نے آzmanے کے لئے گدڑی کو کھولنے کا حکم دیا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ واقعی اس میں چالیس دینار موجود تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے نہایت حیرت سے دریافت کیا، اے لڑکے کیا تجھے علم نہیں تھا کہ ہم ڈاکو ہیں اور اس سے پیشتر تمہارے سب ساتھیوں کا مال لوٹ چکے ہیں۔ تو کم از کم اپنے دینار بچانے کی کوشش کرتا۔ لیکن آپ نے کمال صدق ایمان سے کہا کہ سفر پر روانہ ہونے سے قبل میری والدہ محترمہ نے جو ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون ہیں مجھے فصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور ہمیشہ حق بولنا میں کبھی اپنی والدہ کی فصیحت سے انحراف نہیں کر سکتا تھا۔

یہ الفاظ ترکش سے نکلے ہوئے تیر تھے سردار کے دل پر پیوست ہو گئے، اور اسے خیال آیا کہ یہ لڑکا تو اپنی والدہ کی فصیحت پر اس قدر رنجتی سے کار بند ہے، لیکن میں ہوں کہ اپنے خالق حقیقی کے احکام کی پابندی نہیں کرتا، کس قدر گنہگار اور بے عمل ہوں، اسی وقت خود غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کی، اور ساتھ ہی اس کے ساتھیوں نے بھی توبہ کی۔

شیخ محمد قادر وی نے بھی ایک دفعہ حضور سے پوچھا، کہ آپ کی بزرگی اور عظمت کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہ راست گولی پر، میں نے تمام عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔

بغداد پہنچ کر آپ نے اس دور کے باکمال اساتذہ سے علم قرأت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم لغت، علم شریعت، علم طریقت نہ صرف حاصل کیا، بلکہ ہر علم میں وہ کمال پیدا کیا کہ تمام علمائے زمانہ سے سبقت لے گئے۔ تحصیل و تکمیل علوم کے زمانہ میں آپ نے وہ صعبوں تین برداشت کیں کہ خود ان کے ارشاد کے مطابق اگر وہ سختیاں پہاڑ پر گزرتیں تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا، جب مصائب حد سے زیادہ ہو جاتے تو آپ زمین پر لیٹ کر یہ پڑھا کرتے ”فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يَسْرًا“ اس پر تسلیم قلب حاصل ہو جاتی۔

علوم ظاہری کی تحصیل و تکمیل کے بعد سیدنا غوث الاعظم رض پھیس سال کی طویل مدت تک تزکیہ نفس کے لئے مجاہدات اور ریاضات میں مصروف رہے، جن کی تفصیل اس قدر طویل ہے کہ بیان نہیں ہو سکتی، آپ نے ایک دفعہ وعظ کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ میں پھیس سال تک عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا ہوں، چالیس سال تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی ہے اور پندرہ سال تک عشاء کی نماز پڑھ کر ایک نانگ پر کھڑے ہو کر صبح تک قرآن حکیم ختم کرتا رہا ہوں، اور میں نے بسا اوقات تمیں سے چالیس دن تک بغیر کھائے پیئے گزارے، ۱۵۲ھ میں حضور غوث پاک نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم ﷺ نے اپنا العابدہ بن آپ کے منہ میں ڈالا ہے، اور لوگوں کو وعظ تلقین اور دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا، عربی زبان میں فصاحت و بلافتح کے دروازے کھل گئے، آپ کے سامنے بڑے بڑے فصحاء کی زبانیں گنگ ہو گئیں، آپ کی شہرت سُن کر عراق، عرب اور عجم سے لوگ مواعظ حسنہ سُننے کے لئے بغداد میں آنے لگے، حاضرین کی تعداد اس قدر زیادہ ہو جاتی کہ شہر سے باہر وسیع میدان میں انتظام کرنا پڑتا، بسا اوقات ستر ستر ہزار یا اس سے زیادہ کا مجمع اکٹھا ہو جاتا، اس میں چار سو اشخاص آپ کا کلام نقل کرتے، وعظ کے دوران آپ فرمایا کرتے، اے اہل آسمان وزمیں، آؤ میری بات غور سے سُو!

غرض یہ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے طالب علمی میں بے حد مصائب و پریشانیاں برداشت کیں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ علم بڑی دولت ہے اس پر ہر مصیبت و تکلیف برداشت کرنی چاہیے

حلیہ اور اوصاف جمیلہ

شیخ موفق الدین بن قدامہ القدی (تعارف شیخ موفق الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس لئے ضروری ہے کہ شیخ موفق الدین نجدیوں وہابیوں کے نزدیک نہایت ہی اعلیٰ درجہ کے موجود و محقق تھے۔ ان کی تصنیف کو نجدی، عربی، اردو، و گیر مختلف زبانوں میں شائع کر رہے ہیں تاکہ عوام موفق الدین کے عقائد کے مطابق عقیدے اپنا کیس ان کے تعارف میں انہوں نے لکھا ہے فقیر ذیل کے عنوان سے مکمل نقل کر رہا ہے) نے فرمایا کہ شیخ عبدال قادر شیخیف البدن در میانہ قد مبارک، کشاورہ سینہ تھے اور آپ کی انبوہ دار داڑھی شریف طویل تھی، گندمی رنگ اور آپ کے ابرو ملے ہوئے اور ان کے بال معمولی تھے، گرجدار آواز لیکن خوش اور رعب دار اور علم سے معمور۔

امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف بن محمد بروزی اشبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب **المشيخۃ البغدادیہ** میں لکھا کہ شیخ عبدال قادر خفیہ الحنابلہ والشافعیہ بغداد میں تھے آپ جماعت علماء کے شیخ تھے آپ کی فقہاء کے نزدیک مقبولیت تامہ تھی یونہی فقراء عوام کے بھی مقدتاً تھے آپ ارکان اسلام میں سے ایک تھے آپ سے عوام و خواص منشفع ہوئے اور مستجاب الدعوات تھے بکثرت گریہ کنائ تھے اور نہایت خوش اخلاق ہنس ملکھ بزرگ کریم انفس اور بیحدتی تھے شریف انفس اور اخلاق کریمہ سے مزین تھے اور عبادت و ریاضت میں تو اپنی مثال خود تھے۔

موفق الدین مقدسی کا تعارف

حضور غوث اعظم سے نجدیوں وہابیوں غیر مقلدوں کو خصوصیت سے ضد ہے آپ کو وہ صرف اہلسنت کا بڑا اپیرمان نہیں اور آپ کی علمی حیثیت ان کی نظروں میں کچھ بھی نہیں۔ اس کا سبب تعصب یا آپ کے علمی مرتبے سے بے خبری اور جہالت ہے فقیر یہاں صرف آپ کے مدرسہ کے ایک شاگرد کا تعارف پیش کرتا ہے جسے نجدی وہابی چوٹی کا امام مانتے ہیں۔ آج کے دور میں نجدیوں نے ان کی تصنیف کی اشاعت خوب کی ہے اور کر رہے ہیں۔ فقیر جمادی الاول ۱۳۲۱ھ عمرہ کے لئے حاضر ہوا تو امام موفق الدین کی تصنیف عربی اردو کی عام اشاعت ہوتی دیکھی اس کے ابتداء میں نجدیوں نے اس امام کا تعارف یوں کرایا ہے۔

مؤلف کے حالات زندگی از قلم عبدالقادر ارناؤوط

مؤلف کا نسب نامہ یہ ہے: امام و فقیہ، زاہد، شیخ الاسلام ابو محمد موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامہ حنبلي مقدسی ثم دمشقی صالحی رحمۃ اللہ علیہ۔

آپ فلسطین کی مبارک سر زمین پر بیت المقدس کے قریب علاقہ نابلس کے شہر "جاعل" میں شعبان ۱۵۵ھ میں پیدا ہوئے، یہ وہ زمانہ ہے جب بیت المقدس اور اس کے مضافات پر صلیبوں کا قبضہ تھا، اس لئے آپ کے والد ماجد ابوالعباس احمد بن محمد بن قدامہ، جو اس مبارک خاندان بلکہ اس مبارک سلسلہ نسب کے سربراہ تھے، اپنے پورے خاندان کے ساتھ تقریباً ۱۵۵ھ میں بیت المقدس سے دمشق ہجرت فرمائے، سفر ہجرت میں آپ کے دونوں بیٹے ابو عمر اور موفق الدین نیزان کے خالہ زاد بھائی عبد الغنی مقدسی بھی ساتھ تھے۔ مقدسی خاندان کے بیت المقدس سے دمشق ہجرت کرنے کے اسباب پر حافظ

ضیاء الدین مقدسی کی ایک مستقل کتاب ہے۔ بہر حال آپ کے والد پورے کنبہ کے ساتھ دمشق میں مسجد ابو صالح میں دروازہ کے پاس اترے، پھر دو سال کے بعد مسجد سے منتقل ہو کر دمشق کے اندر ہی صالحیہ کے کوہ قاسیون کے دامن میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اس دوران امام موفق الدین قرآن مجید حفظ کرتے اور اپنے والد ماجد ابوالعباس سے (جو کہ صاحب علم و فضل اور متقیٰ و پرہیز گار شخصیت تھے) ابتدائی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر دمشق کے علماء و مشائخ سے تحصیل علم کیا اور فرقہ میں "محضر الخرقی" وغیرہ زبانی یاد کر لی، مرحلہ تحصیل علم میں آپ قدم بقدم آگے بڑھتے رہے، یہاں تک عمر کی بیس منزیلیں طے کر لیں، پھر آپ نے طلب علم کے لئے بغداد کا سفر کیا، آپ کے خالہ زاد بھائی عبدالغنی مقدسی جو آپ کے ہم عمر بھی تھے اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے، امام موفق الدین شروع شروع میں تھوڑے عرصہ کے لئے بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس ٹھہرے، شیخ کی عروس وقت تقریباً نوے سال تھی، امام موفق الدین نے شیخ عبدالقادر جیلانی سے "محضر الخرقی" خوب سمجھ کر اور بڑی وقت نظر کے ساتھ پڑھا، کیونکہ دمشق میں آپ مذکورہ کتاب زبانی یاد کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہی شیخ کی وفات ہو گئی تو آپ نے ناصح الاسلام ابوالفتح شیخ ابن المنی کی شاگردی اختیار کر لی اور ان سے فقہ حنبیلی اور اختلاف مسائل کا علم حاصل کیا، ان کے علاوہ ہبۃ اللہ بن الدقاد وغیرہ سے بھی آپ نے علمی استفادہ کیا۔ بغداد میں چار سال کا عرصہ گزارنے کے بعد آپ دمشق واپس تشریف لائے اور اہل و عیال کے ساتھ کچھ دن گزار کر ۲۷۵ھ میں پھر بغداد روانہ ہو گئے اور ایک سال تک شیخ ابوالفتح ابن المنی سے علم حاصل کرنے کے بعد دمشق واپس آگئے۔ ۲۷۵ھ میں فریضہ حج ادا فرمایا، پھر مکہ مکرمہ سے دمشق واپس آ کر فقہ حنبیلی کی مشورہ کتاب "محضر الخرقی" کی شرح "المغنى" کی تصنیف میں مشغول ہو گئے۔ کتاب "المغنى" فقہ اسلامی اور خصوصیت کے ساتھ فقہ حنبیلی کی اہم ترین کتابوں میں سے ہے، اسی لئے سلطان العلماء عز بن عبد السلام نے کہا تھا کہ جب تک میرے پاس "المغنى" نہیں تھی اس وقت تک فتویٰ دینے میں مجھے مزہ نہیں آتا تھا۔

طلبه آپ کے پاس حدیث و فقہ اور دیگر علوم پڑھتے تھے، ایک کثیر تعداد نے آپ سے فقہ میں کمال و درست حاصل کیا ہے، جن میں آپ کے بھتیجے قاضی القضاۃ شمس الدین عبدالرحمٰن بن ابی عمر اور ان کے طبقہ کے دیگر علماء بھی شامل ہیں۔ درس و تدریس کے ساتھ ہی آپ کا مختلف علوم و فنون میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری تھا، خصوصاً علم فقہ میں جس میں آپ کو یہ طویلی حاصل تھا، اس موضوع پر آپ کی متعدد تصنیفات اس کی شاہد عدل ہیں، علم فقہ میں آپ کی شخصیت بالکل نمایاں ہے اور میدانِ علم کے شہسوار آپ کے فضائل و مناقب اور علمی برتری کے گواہ ہیں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ملک شام میں اوزاعی کے بعد موفق الدین سے بڑا فقیہ نہیں آیا۔

امام ابن الصلاح کہتے ہیں کہ موفق الدین جیسا عالم میں نہیں دیکھا۔ سبط ابن الجوزی کہتے ہیں کہ جس نے موفق الدین کو دیکھا اس نے گویا بعض صحابہ کو دیکھ لیا، ایسا لگتا تھا کہ ان کے چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے۔ بہر حال، آپ مختلف علوم و فنون کے امام تھے، آپ کے زمانہ میں آپ کے بھائی ابو عمر کے بعد آپ سے زیادہ متقیٰ و پرہیز گار اور بڑا عالم کوئی نہ تھا، عقائد اور زہد و تقویٰ میں آپ سلف صالحین کا نمونہ تھے، بڑے باحیا، دنیا و ما فیہا سے بے رغبت، نرم گفتار، نرم دل، ملشار، فقراء و مساکین سے محبت و ہمدردی کرنے والے، بلند اخلاق، فیاض و حنفی، عبادت گزار، فضل و کرم والے، پختہ ذہن، علمی تحقیق میں سخت احتیاط برتنے والے، خاموش طبیعت، کم خن، کثیر العمل نیز بے شار فضائل و مناقب کے مالک تھے، انسان آپ سے ہم کلام ہونے سے پہلے محض دیکھ کر ہی آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔

حافظ ضیاء الدین مقدسی نے آپ کی سیرت پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، اسی طرح امام ذہبی کی بھی اس موضوع پر ایک کتاب ہے۔

امام موفق الدین ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ صرف علم و تقویٰ ہی کے امام نہ تھے، بلکہ آپ نے بطل اسلام صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مل کر جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ بھی ادا کیا ہے، آپ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ۵۸۳ھ میں جب صلاح الدین ایوبی نے صلیبوں کی سرکوبی نیزان کی غلاظت سے فلسطین کی مبارک سر زمین کو پاک و صاف کرنے کے لئے مسلمانوں کو لے کر فوج کشی کی تو امام موفق الدین ابن قدامہ، ان کے بھائی ابو عمر، آپ دونوں کے تلامذہ اور خاندان کے کچھ دیگر افراد اس فتحیاب اسلامی پر چم کے تلے ہو کر عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر فریضہ جہاد ادا کر رہے تھے۔ آپ حضرات کا ایک مستقل خیزہ تھا جسے لے کر وہ مجاہدین کے ساتھ ساتھ منتقل ہوتے رہتے تھے۔

امام موصوف نے علم فقہ نیز دیگر علوم میں بے شمار مفید کتابیں چھوڑی ہیں۔ چنانچہ علم فقہ میں "العدۃ" مبتدی طلبہ کے لئے اور "المقعن" متوسط طبقہ کے طلبہ کے لئے، نیز "الكافی" اور "المغنی" لکھی ہے "الكافی" میں دلائل کے ساتھ مسائل کا ذکر کیا ہے تاکہ طلبہ دلیل کی روشنی میں مسائل کا احاطہ اور پھر اس پر عمل کر سکیں، اور "المغنی" جو "مخصر الخرقی" کی شرح ہے اس میں علماء کے مذاہب و آراء اور ان کے دلائل ذکر کیے ہیں، تاکہ باصلاحیت علماء اجتہاد کے طریقوں سے واقف ہو سکیں۔ اصول فقہ میں آپ کی کتاب "روضۃ الناظر" ہے، ان کے علاوہ مختلف علوم و فنون میں "مخصر فی غریب الحدیث"، "البرهان فی مسالۃ القرآن"، "القدر"، "فضائل الصحابة"، "المسایل فی اللہ"، "الرقۃ والبرکاء"، "ذم الموسین"، "ذم الاتاویل"، "تسبیح فی نسب القریبین"، "مناسک الحج" اور زیر مطالعہ کتاب "لمحة الاعتقاد المحدادی الی سبیل الرشاد" وغیرہ گرانقدر تالیفات ہیں۔

۲۲۰ھ میں ہفتہ عید الفطر کے دن آپ کی وفات ہوئی اور دمشق کے اندر صاحبیہ کے کوہ قاسیون کے دامن میں جامع الحنابلہ کے بالائی جانب آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

تبصرہ اویسی غفرلنہ

غور فرمائیے کہ وہابی جس غوث اعظم ﷺ کے ایک شاگرد کے علمی و عملی مقام کو اتنا اونچا مانتے ہیں ان کے استاد کرم کہ جن کے علمی مقام کا امام موفق کو نہ صرف اعتراف ہے بلکہ آپ سے بڑھ کر اور کسی کو ان کے علمی پایہ کا نہیں مانتے پھر ان سے صرف نظر کرنا ضد اور تعصّب نہیں تو اور کیا ہے۔

مزید اضافہ اویسی غفرلنہ

حضور غوث اعظم ﷺ کے اخلاق کریمانہ بیان کرنے کے لئے ضخیم دفاتر چاہئے۔ مشتہ نمونہ خود اور فقیر عرض کرتا ہے، فرمایا: ہر مسلمان چاہے کتنی ہی نیکیاں کرے لیکن اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، اور ہر وقت خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور توبہ کرتا رہے۔

قناعت

یعنی ہر مسلمان کے پاس جو کچھ ہوا سی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے حرام اور تاجائز ذریعوں سے دنیا کا عیش حاصل نہ کرے۔

یعنی ہر مسلمان اپنے ہر معاملے میں صرف خدا پر بھروسہ کرے، اپنی محنت، تدبیر و یا انسان کو اپنے کاموں میں کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھے۔

صبر

یعنی مسلمان ہر مصیبت اور تکلیف پر صبر کرے، اور اس کو برداشت کرے۔

رضاء

مسلمان کو ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہئے کہ اس کا ہر کام خدا کو راضی اور خوش کرنے کے لئے ہوانا نوں کو راضی اور خوش کرنے کے لئے نہیں۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غرور، تکبر سے بچنے، سادہ زندگی گزارنے، وقت کی پابندی کرنے، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور ہر مصیبت کو برداشت کر کے دین کی پابندی خدمت اور تبلیغ کرنے کی تعلیم بھی دی۔ جس مسلمان نے اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لیں اسے ترقی اور کامیابی ضرور نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوبیاں عطا فرمائے۔

(آمین)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح ظاہری علم حاصل کرنے کے لئے عالموں کو اپنا استاد بنایا اور علم کا کمال حاصل کیا اسی طرح روحانی ترقی اور علم حاصل کرنے کے لئے آپ نے اپنے زمانے کے بزرگوں سے تعلق قائم کیا اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے روحانی ترقی حاصل کی۔

اسلام میں مسلمانوں کے اندر نہ ہبی جذبہ پیدا کرنے، دین کی پابندی کا شوق اور روحانی قوت کو بڑھانے کے لئے بیعت کا طریقہ موجود ہے عام مسلمان کسی ایسے بزرگ اللہ کے ولی کے سامنے دین کی پابندی کا وعدہ کرتے ہیں جو خود شریعت کا پابند ہو، وہ شریعت کو اچھی طرح جانتا ہو، اور اس کا تعلق خود بھی اللہ کے کسی ولی سے ہو۔ ایسے بزرگ کے سامنے دین کی پابندی کا وعدہ کرنے ہی کو بیعت کہا جاتا ہے، جس کے سامنے یہ وعدہ کیا جائے اُسے پیر یا شیخ کہتے ہیں اور وعدہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں، اس وعدے کا اثر وعدہ کرنے والے پر ہوتا ہے، کہ وہ کسی بھی برا کام کرنے سے پہلے یہ خیال کرتا ہے کہ میں تو برائیوں سے توبہ کر کے دین کی پابندی کا وعدہ کر چکا ہوں، اس خیال کے آتے ہی وہ برائیوں سے بچتا رہتا ہے، اسی لئے مسلمانوں کو بزرگوں، ولیوں سے تعلق پیدا کرنے، ان سے بیعت ہونے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاقی امور کی تفصیل کے لئے فقیر کی کتاب "سو نجف غوث اعظم دیگر" کا مطالعہ فرمائیے۔

جود و سخا

مصنف کتاب نے لکھا امام موفق الدین ابن قدامہ نے فرمایا کہ ہم بغداد میں ۶۵۵ھ میں وارد ہوئے تو اس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا علمی شہرہ تھا آپ کے علم و عمل اور فتویٰ نویسی کا کوئی ثانی نہ تھا جو طالب علم بغداد میں علم کے حصول کے لئے حاضر ہوتا وہ آپ کے بغیر کسی دوسرے کی طرف رُخ نہ کرتا آپ علوم کے جملہ فنون میں یکتا اور بے

<http://www.alahazrat.net> مثال تھے اور طالب علموں کو خوب مخت سے پڑھاتے اور فرائدی کا یہ حال تھا کہ کسی بات سے نہ اکتا تھے آپ جملہ اوصاف جمیلہ سے موصوف تھے میں نے آپ جیسا کسی اور کوئی دیکھا۔ علمائے بغداد کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اکثر خاموش رہتے ہیں بہت کم گفتگو فرماتے اور عوام و خواص میں آپ کی قبولیت تامہ تھی دلوں پر قبضہ تھا اپنے مدرسہ مبارک سے صرف جمعہ کے دن جامع مسجد تک باہر تشریف یا سراۓ غوثیت تک جانا ہوتا تھا آپ کے ہاں بغداد کے بڑے بڑے روئے امراء نے توبہ کی اور یہود و نصاریٰ کے بڑے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ مبزر پر وعظ میں حق بیان کرنے میں بیباک تھے اور منکرین اسلام اور فساق کا سختی سے رد فرماتے۔

امام موافق سے حضور غوث اعظم ﷺ کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو آخری عمر میں دیکھا بلکہ آپ کے مدرسہ میں تعلیم کے لئے حاضر ہوئے تو آپ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے بار بار ہمارے پاس اپنے صاحبزادہ تھیں رحمۃ اللہ علیہ کو پرسش احوال کے لئے سمجھتے۔ ہمارے مطالعہ کے لئے روشنی کا انتظام فرماتے اور ہمارے کھانے کا خصوصیت سے خیال فرماتے۔

اضافہ او بیسی غفرانہ

مصنف کتاب نے اختصار سے کام لیا فقیر کچھ اضافہ کرتا ہے۔ ”شیخ محبی الدین عبد القادر جیلانی (رقت قلبی اور خشیت الہی کی وجہ سے عبرت و رقت کی بات سن کر) بہت جلد آنسو بھانے والے، انتہائی خشیت الہی رکھنے والے، بار عرب و بد بہ، مستجاب الدعوات، صاحب اخلاق کریمہ، عالی نسب، غیر مہذب بات سے انتہائی دور، حق اور معقول بات سے بہت قریب، حدود الہی اور احکام خداوندی کی خلاف ورزی پر آپ کو جلال آجاتا، اپنے معاملہ میں کبھی غصہ نہ کرتے۔ اللہ کے علاوہ کسی چیز کے لئے انتقام نہ لیتے۔ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوتاتے، خواہ بدن کا کپڑا ہی اتار کر کیوں نہ دینا پڑے۔“

آپ ہمیشہ محتاجوں کی دشمنی فرماتے اور کھلے دل سے ان پر خرچ کرتے

”ایک دفعہ آپ نے ایک شکستہ حال اور افسردہ شخص سے خیریت پوچھی۔ اس نے عرض کیا حضور! دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا تھا مگر ملاح نے بغیر کرایہ مجھے کشتی پر سوار نہ ہونے دیا۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے بہت منت سماجت کی مگر ملاح نے میری بات نہ مانی۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ ایک شخص نے تمیں اشرافیوں کی تھیلی بطور نذر رانہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے تھیلی فقیر کو دے کر فرمایا۔ یہ اس ملاح کو دے دو اور اسے کہہ دینا کہ آئندہ کسی غریب اور محتاج کو دریا عبور کرنے سے انکار نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنا کرتہ اتار کر اس فقیر کو دیا۔ پھر میں دینار سے یہ کرتہ خرید لیا۔ اور یوں اس غریب کی بھی مد فرمادی۔ غرباء سے آپ کی محبت کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے:

”اپنے زمانہ شہرت میں آپ حج کے لئے نکلے۔ جب بغداد کے قریب بستی ”حلہ“ میں پہنچے تو حکم دیا اس بستی میں سب سے غریب اور بے کس گھرانہ تلاش کرو۔ ہم نے کافی تحقیق کے بعد ایک ایسا مکان تلاش کیا جس میں ایک بوڑھا شخص اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ رہتا تھا اور یہی گھر سارے قبے میں سب سے زیادہ غریب تھا۔ وہاں کے امیروں اور رئیسوں کو آپ کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ہاں قیام کی درخواست کی مگر ان کے اصرار کے باوجود آپ نے اسی غریب کے ہاں نٹھبرنا پسند فرمایا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں بطور نذر رانہ نقدی، سوتا، چاندی، مولیشی اور کھانے پینے کی اشیاء کے انبار لگا دیئے۔ آپ نے رفقاء سے فرمایا۔ اس مال میں سے اپنا حصہ اس گھر والوں کے لئے وقف کرتا ہوں۔ رفقاء نے بھی آپ کی

سبحان اللہ وہ بوزہا جو چند لمحے پہلے بستی میں سب سے زیادہ غریب تھا آپ کے قدم میمنت لزوم کی برکت سے اب بستی کا سب سے مالدار شخص بن چکا تھا۔“

لنگر غوثیہ

بھوکوں کو کھانا کھلاتے، اور حاجت مندوں کی ضروریات کے لئے بے دریغ خرچ فرماتے۔

علامہ ابن التجار، جباری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

ایک بار مجھے سیدنا عبدالقدیر جیلانی نے فرمایا۔ میں نے تمام اعمال کے بارے میں تحقیق کی ہے۔ کھانا کھانے سے بڑا عمل اور حسن اخلاق سے بڑی نیکی میں نے نہیں دیکھی۔ ”او دلو کانت الدنیا بیدی اطعمها علی الجائع“ میری خواہش ہے کہ اگر ساری دنیا (کی دولت) میری ہتھیلی پر رکھ دی جائے تو میں اس سے بھوکوں کو کھانا کھلاؤں۔ پھر فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے میری ہتھیلی میں سوراخ ہیں، کوئی چیز نکل نہیں سکتی۔ اگر ہزار دینا بھی میرے پاس آئیں تو شام ڈھلنے سے پہلے پہلے تقسیم کر دوں۔

آپ کا لنگر نہایت وسیع تھا، دسترخوان پر خدام اور مہماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے۔ آپ کا خادم مظفر تھاں میں روٹیاں لے کر دروازہ کے باہر کھڑا آواز دیتا رہتا۔ کسی کوروٹی کی ضرورت ہو یا رات گزارنا چاہے (تو اس کے لئے غوثیہ مہماں خانہ کھلا ہے) آپ کے پاس ہدیہ آتا تو تقسیم فرمادیتے اور ہدیہ بھجوانے والے کو خوب بھی ہدیہ بھجواتے۔

خلق خدا کو کھانا کھانے کا ایک انداز گیا رہویں شریف کی صورت میں بھی تھا۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ **قرۃ الناظر** و خلاصۃ المذاخر میں فرماتے ہیں:

آپ ہر سال ربیع الآخر کی گیارہ تاریخ کو سرکار دو عالم میں قیامت کی نیاز دلوایا کرتے۔ یہ نیاز اتنی مقبول ہوئی کہ پھر آپ ہر ماہ کی گیارہ ہویں تاریخ کو اہتمام کے ساتھ حضور میں قیامت کی نیاز دلوائے آخر رفتہ رفتہ یہی نیاز اب خود حضرت شیخ عبدالقدیر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز قرار پاتی۔

گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کے میلاد منانے کے عمل کو قبول کر کے یہ صلد دیا کہ اب ہر ماہ آپ کے نام کی گیارہ ہویں ہو رہی ہے اور حسن اتفاق کہ (بقول مشہور و معتبر) آپ کا وصال بھی گیارہ ربیع الآخر کو ہوا۔ بعض نے سترہ ربیع الآخر تاریخ وصال بیان کی ہے مگر بقول شیخ عبد الحق محقق دہلوی ”اس کی کوئی اصل نہیں۔“

آپ کے وصال کے بعد بھی خانقاہ غوثیہ میں گیارہ ہویں شریف کا سلسلہ جاری رہا۔ چنانچہ مشہور محدث علامہ ابن تیمیہ (م ۸۸۷ھ) بھی لنگر میں حصہ لیتے اور اپنی تمام ترشدت کے باوجود سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے حسن عقیدت کی بناء پر آپ کے عرس مبارک اور بڑی گیارہ ہویں شریف کے موقع پر لنگر بھجوایا کرتے۔

علامہ ابراہیم الدوربی لکھتے ہیں:

كان العلامة ابن تيمية يرسل من دمشق الشام نذوراً واعانات للحضرۃ الكیلانیة لاجل الدرس والتدریس واطعام الطعام وذالک فی اوخر ربیع الاول وکانت تلك القافلة تحتوى على ثلاثة بعيرا۔ (ازنام ونسب صاحبزادہ صاحب گلزارہ شریف)

”علامہ ابن تیمیہ دمشق (شام) سے درگاہ جیلانیہ میں نذرانے اور ہدیتے درس و تدریس اور (الکرنغو شیہ) میں کھانا کھلانے کے لئے ربیع الاول کی آخری تاریخوں میں بھیجا کرتے تھے اور یہ قافلہ میں اونٹوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔

جواب بلا مطالعہ

مصنف کتاب نے لکھا حضرت عمر براز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عراق وغیرہ سے بے شمار فتاویٰ پیش ہوتے تو ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ آپ نے فرمایا ہو کہ اس کا جواب کل ملے گایا آپ نے اس میں کوئی غور و فکر کیا ہو بلکہ برجستہ فوراً بلا تامل سوال کے بعد جواب لکھ دیتے۔

دعوت توحید

سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ خالق سے تعلق اور مخلوق سے ترک تعلق و ترک اعتماد کی دعوت دیتے تھے اور آپ کی مندرجہ ذیل دعوت کا مضمون آپ کی کتاب ”فتح الغیب“ میں صراحة موجود ہے۔ جب کوئی کسی آزمائش میں بتلا ہو جائے تو خود اس سے نجات پانے کی کوشش کرے اگر کامیاب نہ ہو تو وقت کے باشا ہوں اور حاکموں اور افسروں اور دیگر اہل دنیا سے مدد طلب کرے اور ارباب احوال سے بھی مدد کا طالب ہو وہ آزمائش اگر امراض سے ہو تو طبیعوں، ڈاکٹروں سے علاج کرائے وغیرہ وغیرہ۔ اگر مخلوق سے اس آزمائش کا چھٹکارانہ ہو سکے تو بارگاہ حق میں دعا والتجاویز و عجز و انکساری کرے جب تک نجات نہ ہو اس بارگاہ کو نہ چھوڑے اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی کو کہے۔

قاعدہ

جو کام مخلوق کے بس کا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض نہ کرے اور جو کام خالق کے ہاتھ میں ہے اس کے لئے مخلوق کو نہ کہے۔

آخری فیصلہ

آپ نے اپنی گفتگو جاری رکھ کر فرمایا کہ ہر مصیبت پر صبر ضروری ہے اور ہر موحد پر لازم ہے کہ وہ یقین کرے ہر مشکل اللہ تعالیٰ ہی حل فرماتا ہے کیونکہ ہر شے کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے ہر خیر و شر اور ہر نفع و نقصان اسی سے ہے دنیانہ دینا اس کے قبضے میں فتح اور رکاوٹ اسی کی جانب سے ہے۔ موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے اور عزت و ذلت کا مالک وہی ہے۔

چوروں کو اولیاء بنادیا

حضور غوث اعظم نے بچ بولنے میں اپنی مثال خود تھے ایک دفعہ آپ حج کے لئے جا رہے تھے۔ قافلہ ایک سنان راستے سے گذر اتواس علاقے کے خوفناک ڈاکوؤں نے تمام مسافروں کا ساز و سامان لوٹ لیا اور غوث اعظم کو کسی غریب کا بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ آگے بڑھنے لگا تو رہنزوں کے سردار نے آپ سے ازراہ مذاق پوچھا ”بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟“ ”ہاں“ غوث اعظم نے لٹیروں کی توقع کے خلاف جواب دیا۔ آخر سردار کے اشارے پر غوث اعظم کی جامہ تلاشی لی گئی مگر رہنزوں کو کچھ بھی نہ ملا۔ ”ہمیں بے وقوف بنتا تھا۔“ ڈاکوؤں کا سردار آپ کی بات کو مذاق سمجھ کر جھنگھلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مذاق کیا ہے؟ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے پاس اخبارہ اشرفیاں ہیں جو قبلہ کے دیبا استر میں ٹائکی گئی ہیں۔ غوث اعظم نے انتہائی پر سکون لجھے میں کہا۔ سردار کے کہنے پر دوبارہ تلاشی لی گئی۔ آخر اس کے ساتھی اشرفیاں پانے میں کامیاب ہو گئے۔ تمام رہنزوں کو اس بات پر حیرت تھی کہ اگر آپ ان اشرفیوں کی نشاندہی نہ

کرتے تو وہ اس طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے۔ آپ کی صاف گوئی پر سردار کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ تعجب ہوا تھا اس لئے وہ غوثِ عظیم سے یہ سوال کئے بغیر نہ رہ سکا۔ ”آپ تو جھوٹ بول کر اپنی اشوفیوں کو بچا سکتے تھے، پھر آپ نے ایسا کیوں نہ کیا؟“ ”رخصت کرتے وقت میری مادر گرامی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اگر جان پر بھی بن جائے گی تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہی میری والدہ کا حکم تھا اگر تم مجھے قتل بھی کر دیتے تو میں اس حکم کو نہیں نال سکتا تھا۔“ غوثِ عظیم نے فرمایا اور سردار کو یوں محسوس ہوا جیسے آپ کے پورے جسم پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔

اطاعت فرمان برداری کی یہ ایک ایسی مثال تھی جسے رہنوں کا رہنمای جھٹلائیں سکا۔ غوثِ عظیم نے اپنی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا کئے تھے ان کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ سردار رو نے لگا۔ پھر تمام لوٹا ہوا مال واپس کر کے صدق دل سے تائب ہوا۔

تبصرہ اویسی غفرلنہ

اکثر کتب میں یہ واقعہ حضور غوثِ عظیم کے بچپن اور طالب علمی کا ہے لیکن اس کتاب میں حج کے موقعہ کا لکھا ہے ممکن ہے یہ واقعہ دوبار واقع ہوا اسی لئے اس میں کوئی خلش نہیں۔

اضافہ اویسی غفرلنہ

کتاب ”اقطاب اربعہ“ میں آپ کے کرم و سخا کا بیان نہایت ہی مختصر ہے۔ فقیر سے گوارہ نہ ہوا کہ اتنے بڑے شیخ کے اوصاف مجمل مذکور ہوں، فقیر بھی تفصیل تو نہیں عرض کر رہا لیکن کتاب مذکور سے قدرے مفصل ہے۔ حضور غوثِ عظیم زہد و تقویٰ اور تعلق باللہ میں اس مقام پر فائز تھے کہ آپ اپنی ذات، اولاد اور مال و دولت کی محبت سے بے نیاز ہو گئے۔ خود فرماتے ہیں:

ماولد قط مولود الا و اخذته على يدى وقلت هذاميت فاخر جه من قلبي اول مايولد۔

”میرے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہوتا، اسے ہاتھ میں لے کر اپنے آپ سے کہتا یہ مرد ہے۔ اس طرح ولادت کے وقت سے ہی اس کی محبت دل سے نکال دیتا۔“

اگر مجلس وعظ کے اوقات میں صاحبزادگان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو مجلس موقوف نہ کرتے اور بدستور سلسلہ وعظ و ارشاد جاری رکھتے۔ جب غسل و کفن دینے کے بعد جنازہ باہر لایا جاتا تو آپ کرسی سے اترتے اور جنازہ پڑھاتے آپ اس فلسفہ پر کار بند تھے کہ جان، مال، اولاد کچھ بھی اپنا نہیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ بارگاہِ الہی میں عرض کرتے:

يارب كيف اهدى اليك روحى وقد صخ بالبرهان ان الكل لك۔ ”باراللہ! میں اپنی روح کا ہدیہ پیش کروں حالانکہ سب کچھ تو تیرا ہے۔“

مسند وعظ وارشاد

ظاہری و باطنی علوم کی بیکھیل کے بعد آپ نے درس و تدریس اور وعظ و ارشاد کی مند کو زینت بخشی۔ آپ کی مجلس وعظ میں ستر ستر ہزار افراد کا مجمع ہوتا۔ ہفتہ میں تین بار، جمعہ کی صبح اور منگل کی شام کو مدرسہ میں اور اتوار کی صبح درگاہ عالیہ میں وعظ فرماتے۔ جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شرکت کرتے۔ بادشاہ، وزراء اور اعيانِ مملکت نیاز

<http://www.alahazrat.net> مندانہ حاضر ہوتے۔ علماء و فقہاء کا جم غیر ہوتا۔ بیک وقت چار چار سو علماء قلم، دوات لے کر آپ کے ارشادات عالیہ قلمبند کرتے۔ آپ کے فرمودات "ازدل خیزد، بردل ریزد" کا مصدق تھے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رقم طراز ہیں:

مجلس آنحضرت ہرگز از جماعت یہود و نصاریٰ و امثال ایشان کے برداشت او بیعت اسلام آور دندے واڑ طوائف عصاۃ از قطاع طریق وار باب بدعت و فساد در مذہب و اعتقاد کے تائب می شدند، حالی نبودے۔

"حضرت شیخ کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی، جس میں یہودی، عیسائی اور دیگر غیر مسلم آپ کے دست مبارک پر اسلام سے مشرف نہ ہوتے ہوں اور جرائم پیشہ بد کردار ڈاکو، بدعتی، بد مذہب اور فاسد عقیدہ رکھنے والے تائب نہ ہوتے ہوں۔" آپ کے مواعظ حسن، قضاء و قدر، توکل، عمل صالح، تقویٰ و طہارت، ورع، جہاد، توبہ، استغفار، اخلاص، خوف و رجا، شکر، تواضع، صدق و راستی، زہد و استغنا، صبر و رضا، مجاہدہ، اتباع شریعت کی تعلیمات اور امر بالمعروف اور نبی عن الممنکر کے آئینہ دار ہوتے۔

حکمرانوں کے سامنے حق گوئی

سیدنا غوث اعظم صلی اللہ علیہ وسالم نے گوئی طور پر معروف انداز کی سیاست میں حصہ نہ لیا مگر آپ سیاست کو دین سے جدا نہیں سمجھتے تھے۔ بھی وجہ ہے کہ آپ اپنے مواعظ حسن میں زبانی و ععظ و تلقین اور پند و نصائح پر اکتفاء نہیں کرتے تھے بلکہ امر بالمعروف اور نبی عن الممنکر کا ربانی فریضہ حسن و خوبی انجام دیتے رہے اور حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہتے رہے۔ آپ ۲۸۸ھ سے سن وصال ۶۱۵ھ تک تہتر (۳۷) سال اپنی حیات ظاہری میں بغداد کو اپنے فیوضات سے نوازتے رہے۔ اس اثناء میں درج ذیل پانچ خلفاء کا زمانہ آپ نے دیکھا:

خلیفہ مستظر بالله	۵۱۲	۵۳۸	ت
خلیفہ مسٹر شد بالله	۵۲۹	۵۵۱	ت
خلیفہ راشد بالله	۵۳۰	۵۵۲	ت
خلیفہ مقتضی بالله	۵۳۰	۵۵۵	ت
خلیفہ مستحب بالله	۵۵۵	۵۵۶	ت

اس دور میں سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کی باہمی کشمکش اپنے عروج پر رہی۔ شورش، فتنہ اور باہمی افتراق کے اس زمانے میں حضرت شیخ نے ععظ و تذکیر کے ذریعے محبت و اخوت کا درس دیا۔ لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے، حب جاہ و مال دنیا کی تحقیر و تذلیل، نفاق، ریا کاری، بغض و کینہ کی نہمت اور عقیدہ آخرت، دنیا کی بے شباتی، ایمان پر پختگی اور اخلاق کامل کی اہمیت پر زور دیتے۔ آپ حکام وقت کی مطلق پرواہ نہ کرتے اور نہ کبھی ان کے دروازے پر جاتے۔ آپ حکمرانوں کے درباروں میں بیٹھنے کو فقراء کے لیے اللہ کی طرف سے بہت جلد ملنے والی سزا اور گرفت قرار دیتے۔

آپ سلاطین وقت اور حکام کی مصاحبۃ اختیار کرنے والے سرکاری درباری علماء و مشائخ کی بے حد نہمت فرماتے ایک موقع پر آپ اس طبقہ سے یوں مخاطب ہوئے:

”اے علم و عمل میں خیانت کرنے والو! تمہیں ان (حکام و سلاطین) سے کیا نسبت؟ اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنو! اے بندگان خدا کے حقوق غصب کرنے والو! تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں بستا ہو۔ اے عالمو! اے زاہد و باڈشا ہوں اور سرداروں کے لیے کب تک منافق بن کر ان سے دنیا کا مال و متاع اور اس کی شہوات و لذات لیتے رہو گے تم اور اس زمانہ کے اکثر بادشاہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن بنے ہوئے ہو۔ اے اللہ! منافقوں کی شوکت توڑ دے ان کو ذلیل فرم، توبہ کی توفیق دے، ان ظالموں کا قلع قلع فرم، اور ان کی اصلاح فرم، یا زمین کو ان سے پاک کر دے۔“

امراء اور حکام وقت کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہ کا روایہ نہایت محتاط تھا۔ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن خضر حسینی موصیٰ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:

”میں تیرہ سال حضرت (ﷺ) کی خدمت میں حاضر ہا۔ اس طویل عرصہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے ناک اور منہ سے بلغم نکلتے اور آپ رضی اللہ عنہ کے بدن مبارک پر کبھی بیٹھتے نہیں دیکھی۔ **ولا قام لا حد من العظاماء ولا الم بباب ذی سلطان ولا جلس على بساطه ولا اكل من طعامه**، آپ ﷺ نے تو کبھی کسی دنیادار کے استقبال میں کھڑے ہوئے، کسی حاکم کے دروازے پر گئے، نہ کبھی کسی حاکم کی مند پر بیٹھے اور نہ ان کے دستخوان سے کچھ کھایا۔ آپ ﷺ اسے گناہ تصور کرتے۔ اگر کبھی خلیفہ یا وزیر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ ﷺ ان کے آنے سے پہلے اٹھ کر دولت خانہ میں تشریف لے جاتے تاکہ ان کے لیے اٹھنا نہ پڑے۔ جب وہ آگر بیٹھ جاتے تو آپ ﷺ باہر تشریف لاتے۔ آپ ﷺ ان سے سخت درشت لہجہ میں گفتگو فرماتے اور وعظ و نصیحت میں انتہائی مبالغہ سے کام لیتے۔ وہ لوگ آپ ﷺ کے ہاتھ چومنے اور مودب ہو کر عاجزی سے آپ ﷺ کی مجلس میں بیٹھتے۔ اگر کبھی خلیفہ وقت کو خط لکھنے کی نوبت آتی تو یوں تحریر فرماتے：“
عبد القادر تمہیں فلاں کام کا حکم دیتا ہے اور تیرے لیے یہ حکم بجالانا ضروری ہے۔“

آپ ﷺ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے حکمرانوں کو بلا خوف و خطر تنبیہ فرماتے۔ علامہ محمد بن یحییٰ حلبي قطراز ہیں:

کان يا مر بالمعروف و ينهى عن المنکر للخلفاء والوزراء والسلطانين والقضاة والخاصه يصد عهم بذلك على روس الا شهاد و روس المنابر وفي المحافل و ينکر على من يولى الظلمة ولا ياخذه في
الله لومة لائم

”آپ ﷺ خلفاء، وزراء، سلاطین، عدیہ، خواص و عوام سب کو امر بالمعروف اور نبی عن المنکر فرماتے اور بڑی حکمت و جرأت کے ساتھ بھرے مجمع اور کھلی محافل و مجالس میں بر سر منبر علی الاعلان ثوک دیتے۔ جو شخص کسی ظالم کو حاکم بناتا اس پر اعتراض کرتے اور اللہ کے معاملہ میں ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔“

ایک مرتبہ خلیفہ متفقینی لامر اللہ نے ابوالوفا یحییٰ بن سعید ایسے ظالم شخص کو قاضی بنادیا جو ابن المزرم ظالم کے لقب سے مشہور تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بر سر منبر خلیفہ کو تنبیہ فرمائی:

وليت على المسلمين اظلم الظالمين ما جو ابك غدا عند رب العالمين ارحم الراحمين -

”تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حکمران بنادیا ہے جو ظالم الظالمن ہے۔ کل قیامت کو اللہ رب العالمین کو کیا

جواب دو گے؟ جو احمد الرحمین ہے۔“

خلیفہ یہ سن کر لرزہ بر اندام ہو گیا، اس پر گریہ طاری ہو گیا اور فوراً اس قاضی کو عہدہ سے معزول کر دیا۔

ایک بار آپ کی خدمت میں لوگوں کا جم غیر تھا، خلیفہ مستحب باللہ ابو المظفر یوسف حاضر خدمت ہوا اور نصیحت چاہی۔ ساتھ ہی سونے کی اشرافیوں کی دس تحلیلیاں مذکور کیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ کے بے حد اصرار پر آپ نے دو تحلیلیاں انھا کران کو نچوڑا تو تازہ خون پکنے لگا۔ آپ نے فرمایا ابو المظفر! تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی لوگوں کا خون جمع کر کے میرے پاس لے آئے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر خلیفہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر خلیفہ کی رسول اللہ ﷺ سے نبی قرابت کا احترام نہ ہوتا تو میں خون بہنے دیتا یہاں تک کہ خلیفہ کے گھر میں داخل ہو جاتا۔

اسی خلیفہ مستحب باللہ نے ایک بار آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اطمینان قلبی کے لئے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا سب، اس وقت عراق میں سب کا موسم نہ تھا۔ آپ نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا تو اس میں دوتازہ سب کی آگئے آپ نے ایک مستحب کو دیا اور دوسرا خود کا ناجوہ ہیت خوبصوردار لکلا۔ جب کہ مستحب باللہ نے سب چیرا تو اس میں سے کیڑا لکلا۔ اس نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا اے ابو المظفر اس کو ظلم کا ہاتھ لگا تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ مصنفوں کتاب نے فرمایا:

علمی مشاغل

آپ کی پوری زندگی اپنے جد کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے فرمان "تعلموالعلم وعلموه الناس" (علم پڑھو اور پڑھاؤ) سے عبارت تھی۔ تصور و ولایت کے مرتبہ عظیٰ پر فائز ہونے اور خلق خدا کی اصلاح تربیت کی مشغولیت کے باوصف درس و مدرسیں اور کارافقاء سے پہلو تھی نہ کی۔ آپ نے مذہب الہست و جماعت کی نصرت و حمایت میں تقریر کے علاوہ درس و مدرسیں اور تصنیف و تالیف سے بھی کام لیا۔ آپ تیرہ مختلف علوم کا درس دیتے اور اس کے لئے باقاعدہ ٹائم ٹیبل مقرر تھا۔

اگلے اور پچھلے پھر تفسیر، حدیث، فقہ، مذاہب اربعہ، اصول اور نحو کے اس باقی ہوتے۔ ظہر کے بعد تجوید و قرأت کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم ہوتی۔

مفتوح غوث اعظم

حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبدال قادر جیلانیؒ فتن فتاویٰ میں بھی بے عدل روزگار تھے۔ آپ بالعموم شافعی و حنبلی مذہب کے مطابق فتوے دیتے، علماء عراق آپ کے فتویٰ پر متعجب ہوتے اور بڑی تعریف کرتے۔

عجب و غریب فتویٰ

ایک دفعہ ایک استفتاء آیا۔ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ وہ ایسی عبادت کرے گا جس میں بوقت عبادت روئے زمین کا کوئی دوسرا شخص شریک نہ ہو گا اور نہ اس کی بیوی کو تین طلاقیں، علماء حیرت زده رہ گئے کہ ایسی کون اسی عبادت ہو سکتی ہے جس میں وہ تنہا عبادت کر رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس میں شریک نہ ہو۔ جب یہ استفتاء حضرت شیخ کی خدمت میں آیا تو آپ نے فوراً بر جستہ فرمایا اس شخص کے لئے مطاف خالی کر دیا جائے اور وہ اکیلا خانہ کعبہ کے سات چکر مکمل کرے۔ علماء نے اس

تبصرہ اویسی غفرلنہ

بلاشبہ طواف وہ عبادت ہے جو بیت اللہ کے ساتھ موقوف ہے اور جب مطاف خالی کر دیا گیا تو کوئی دوسرا شخص اس وقت شریک عبادت نہیں رہے گا اور یوں اس شخص کی قسم پوری ہو جائے گی۔

غلط کار کارد

کسی نے دعویٰ کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سرکی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضور غوث اعظم ﷺ نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تونے ایسے کہا ہے۔ عرض کی ہاں، آپ نے اس کی زجر و توبخ کی اور فرمایا آئندہ ایسا دعویٰ نہ کرنا۔

صدق کی دعوت

اپنی کتاب **غذیۃ الطالبین** میں فرماتے ہیں (غذیۃ الطالبین بعض کے نزدیک حضور غوث اعظم ﷺ کی طرف منسوب ہے) اس کی تحقیق و تفصیل فقیر کے رسالہ "هدیۃ السالکین فی توضیح غذیۃ الطالبین" اور رسالہ "کیا غوث اعظم وہابی ہیں؟" میں دیکھئے۔ اویسی غفرلنہ

فضائل میں سب سے بڑی فضیلت صدق میں ہے۔

صدق جملہ امور کا سرتاج ہے اسی سے ہر امر کا نظام ہے یہ نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"وَمَنْ يَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّلَاحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا" (پارہ ۵ سورہ النساء)

ترجمہ کنز الایمان

"اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔"

صادق اسم لازم ہے صدق سے مشتق ہے اور صدیق اس کا مبالغہ ہے وہ جس سے بار بار صدق صادر ہو بلکہ اس کی صدق عادت و فطرت بن جائے اور اس پر صدق کا غالبہ ہو۔ صدق ظاہر و باطن حال میں برابر ہو صدق وہ ہے جس کے اقوال سچ ہوں صدیق وہ ہے جس کے جملہ اقوال و احوال صدق پر منی ہوں۔ جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو وہ صدق پر التزام کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ صدیقین کے ساتھ ہے۔

بعض نے کہا کہ ہلاکتوں کے موقعہ پر حق کی بات کہنا، بعض نے کہا صدق عمل میں اللہ تعالیٰ سے وفاء کا نام ہے۔ حضرت سہل بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اپنے آپ کو یاد و سرے کو بچانے کی کوشش میں ہو وہ صدق کی خوبصورت سونگھ سکا، بعض نے کہا صدق یہ ہے کہ ہلاکت کی جگہ پر جہاں جھوٹ کے سوانہ بچا سکے سچ بولنا۔ بعض نے کہا جب تم اللہ تعالیٰ کو صدق سے تلاش کرو گے تو وہ تمہیں ایسا آئینہ عطا کرے گا جس سے تم عجائب دنیا و آخرت کی ہر شے کو دیکھو گے۔

مواعظ غوث اعظم

آپ فرماتے تھے میں تمہیں تقویٰ و قناعت اور ظاہر شرع پر التزام اور سلامت صدر و سخاء انفس اور بشاشت وجہ اور ہر

شے راہ خدا میں لٹانے اور لوگوں کو اذیت نہ پہنچانے اور ہر چھوٹے بڑے کی خیرخواہی اور ترکِ خصومت کی وصیت کرتا ہوں، نیز آپ کے مواعظ میں یہ بھی ہے کہ میں تمہیں اغنیاء کے ساتھ باوقار اور فقراء کے ساتھ عجز و انکسار کے ساتھ رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے اوپر عجز و اخلاص کو لازم پکڑو۔

نصائح غوث اعظم

جب تم اپنے دل میں کسی کا بغض بامجہت پاتے ہو تو اسے کتاب و سنت سے پرکھو اگر کسی سے بغض کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اس پر خوشی مناؤ کہ تمہارا بغض اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی رضا کے موافق ہے اگر کوئی کتاب و سنت کے مطابق عمل رکھتا ہے لیکن تم اس سے بغض کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم بندہ شہوات ہوا پنی نفسانی خواہش کی وجہ سے اس سے بغض کرتے ہو اور تم اس بغض سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہو۔

غوث اعظم ﷺ ورع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم اس پر التزام کرو ورنہ ہلاکت تمہاری گردن میں ہو گی اور وہ تیرے سر ہو گی اور تم اس سے بھی نجات نہ پاسکو گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔

حضور غوث اعظم ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا کرے تو اس سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طاعت میں وقت بسر کرو ورنہ وہ مال تیرے لئے دنیا و آخرت کا حباب بن جائے گا بلکہ وہ مال تجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا اور تجھے منعم سے ہشا کر اپنے میں مشغول کر دے گا اگر تم مال سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طاعت میں وقت بسر کرو گے تو تجھ پر اللہ تعالیٰ کی عطا میں ہوں گی اور تیرے مال میں بھی کمی نہیں آئے گی پھر دنیا میں بھی عیش و عشرت سے گذرے گی اور آخرت میں بھی مکرم و مطیب ہو گے اور صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ جست الماوی میں مقیم ہو گے۔

اور فرمایا کہ اگر تم ضعیف الایمان والیقین ہو اور تو نے وعدہ کر رکھا ہے فلہذ اسے پورا کرو اسکے خلاف نہ کرو ورنہ تمہارا ایمان تحسن جائے گا اور تیرالیقین تیرے سے زائل ہو جائے گا اگر تو قوی الایمان والیقین ہے تو دل میں اسے اور زیادہ مضبوط کر اور ثابت قدم رہ پھر منجانب اللہ خطاب نصیب ہو گا۔ **”انك اليوم لدنيامکين امين۔“** آج تو تمہارے ہاں مکین و امین ہے۔

حکمت کی باتیں

حضور غوث اعظم ﷺ کی حکمت کے اقوال اور اعلیٰ گفتار بے مثال ہیں فرمایا، ”عمل صالح صدق و خلوص و تقویٰ سے نصیب ہوتا ہے ایسا انسان ماسوئی اللہ سے صبح و شام دور ہو جاتا ہے۔

شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عجز و نیاز کے ساتھ منعم کی نعمت کا اعتراف ہو، سنت الٰہی کا مشاہدہ اور حفظ حرمت یوں ہو کہ دل میں سمجھے کہ نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ فقیر صابر، غنی شاکر سے افضل ہے اور فقیر شاکر دونوں سے افضل ہے جو آخرت کا طالب ہے وہ دنیا میں زہد اختیار کرے اور جو اللہ تعالیٰ کا طالب ہے وہ آخرت سے بھی بے نیاز ہو جائے۔

صدق و صفاء پر التزام ضروری ہے ان کے سوا قرب الٰہی ناممکن ہے جو دنیا و آخرت میں سلامتی چاہتا ہے اسے صبر و رضا پر التزام اور مخلوق سے شکوہ و شکایات کا ترک کرے اس کی صرف دو حالتیں ہیں (۱) عافیت (۲) بلاء۔ جب کوئی جزع و شکوئی اور غصہ و رنج اور اعتراض اور تہمت برحق میں بنتلا ہو جائے تو اسے نہ صبر کرنا چاہے گا اور نہ رضا اور نہ موافقت الٰہی بلکہ یہ بے ادبیں میں شمار ہو گا اگر عاقبت کے معاملہ میں بنتلا ہے تو اسے حرص، کبر، اتباع شہوات و لذات گھیر لیں گی جب ایک

کو پالے گا تو دوسرا کی طلب کرے گا اس طرح سے تباہ و بر باد ہو جائے گا اسی لئے چاہئے کہ ان کی طلب نہ ہو۔

فقہ کے بارے میں

حضور غوث اعظم ﷺ ہمیشہ فقہ حاصل کرنے کی دعوت دیتے تھے اور اس کے حصول کے لئے شرائط بیان فرماتے تھے اور فرماتے پہلے فقہ حاصل کرو پھر خلوت، اور فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت علم کے بغیر کی تو صلاحیت سے اسے فساد زیادہ نصیب ہو گا اور فرمایا کہ تم شرع رباني کا چراغ حاصل کرو۔

اور فرمایا جو اپنے علم پر عمل کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ایسے علم کا وارث بنائے گا جس کا اسے پہلے علم نہ تھا یعنی علمِ لدنی نصیب ہو گا۔

اور فرمایا کہ اپنے سے اسباب کو توڑ دو دوستوں اور لوگوں سے دور رہوں اپنے دل میں زہد کے اثرات پیدا کرو۔ دل کو حسن ادب سے آراستہ کرو۔ ماسوی اللہ سے بالکل الگ تھلگ رہو، ماسوی اللہ کی طرف کان نہ دھرو اور نہ ہی اس کے اسباب کی تلاش کروتا کہ کہیں تیرے دل کا چراغ بجھنا جائے۔ چالیس دن مسلسل اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ خلوص کرو تیرے دل سے حکمت کے چشمے زبان پر جاری ہو جائیں گے۔

اضافہ اویسی غفرلنہ

اسی کو عارف رومی نے بیان فرمایا ہے

۔ چشم بندو گوش بندولب به بند○ گرنہ بینی سرِ حق ما بخند

تصانیف

مصنف نے فرمایا:

(1) الغنیہ لطالبی الحق، بار بار مطبوع ہورہی ہے (2) المواهب الرحمانیہ والفتورات الربانیہ (3) تفسیر القرآن الکریم و مخطوطہ دو اجزاء رشید کرامہ کے پاس طرابلس شام میں موجود ہے (4) تنبیہ الغبی الی رویۃ النبی (محظوظہ فاتیکان رومہ) میں موجود ہے (5) جلاء الخاطر، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مخطوطات ہیں۔ خلیفہ نے کشف الظنون میں ذکر کیا ہے حال ہی میں اردو ترجمہ شائع ہوا ہے۔
(اویسی غفرلنہ)

(6) حزب بشائر الخیرات (اسکندریہ مصر میں مطبوع ہوئی) حال ہی میں پاکستان میں بھی اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہوئی ہے
(اویسی غفرلنہ) (7) فتوح الغیب، بار بار شائع ہوئی اور اردو میں بھی (اویسی غفرلنہ) (8) رسالہ غوثیہ مکتبہ الاوقاف بغداد میں موجود ہے (فتیر نے بھی اسے اپنی تصنیف "غوث اعظم لقب کس کا" میں شامل کر کے شائع کیا ہے) (اویسی غفرلنہ)
(9) حزب عبدالقادر الگیلانی، مکتبہ الاوقاف بغداد میں ہے۔ (10) الفتح الربانی والفيض الرحمنی، یہ بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مخطوطات ہیں۔ بارہا مطبوعہ ہوئی اور اردو میں بھی (اویسی غفرلنہ) (11) رسالتہ الوصیہ (12) مناقب الجیلانی۔

اضافہ اویسی غفرلنہ

بعض علماء نے فرمایا کہ نیتیۃ الطالبین کی نسبت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف صحیح نہیں۔ تفصیل فتیر کے رسالہ " ۹

طریقت

مصنف کتاب نے فرمایا، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے طریقت کے دس اصول مرتب فرمائے۔ دراصل دعوت ایمان و اتباع کتاب اللہ تعالیٰ و سنت رسول اللہ علیہ السلام و حفاظت اركان الاسلام اور فضائل کا تمک اور رذائل سے اجتناب کا نام طریقت ہے اور یہ اصول آپ نے اپنی کتاب ”**غنیۃ الطالبین**“ میں بیان فرمائے۔ چنانچہ فرمایا کہ اہل مجاہدہ و اہل عزم کو دس خصال ضروری ہیں جو اہل حق نے اپنے لئے آزمائے ہیں جب کوئی ان کو قائم کرے گا اور ان پر ثابت قدم رہے گا ان کی برکت سے منازل شریفہ تک پہنچے گا، ان میں سے ایک یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قسم نہ کھائے پھی ہو یا جھوٹی عمد़اً ہو یا سہو اجنب اس پر مضبوطی سے کار بند ہو گا کہ کبھی ایسی قسم نہ کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر انوار کا دروازہ کھولے گا جس کا فائدہ وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا بلکہ جسم میں بھی اس کا احساس ہو گا اس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے گا اور عزم میں قوت پیدا ہو گی۔ لوگوں میں اس کی تعریف ہو گی ہماری گان کی نظروں میں بھی اچھا آدمی سمجھا جائے گا پھر ہر شخص کے حکم کو تسلیم کرے گا اور جو اسے دیکھے گا اس پر اس کا رب چھا جائے گا۔ (۲) جھوٹ سے اجتناب کرے نہ عمد़اً اور نہ بطور مذاق، اس پر مضبوطی سے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے گا اور اس کا علم صاف و شفاف ہو جائے گا اور ایسی طبیعت کا مالک بن جائے گا کہ گویا وہ کذب کو جانتا تک نہیں بلکہ کسی دوسرے سے ایسی بات سنے گا تو وہ اسے معیوب محسوس ہو گا اگر وہ اس کے لئے تکذب سے اجتناب کی دعماً نگے تو ثواب پائے گا۔ مزید فتوح الغیب شریف کا مطالعہ کیجئے۔

ازواج مکرمات رحمہم اللہ تعالیٰ

شیخ الصوفیہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”**عوارف المعارف**“ میں لکھا کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں ایک مدت سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا تھا لیکن تضعیف اوقات کے خوف سے باز رہا، بالآخر تقدیر اللہ سے میرے لئے نکاح کرنے کے اسباب بننے تو یہ بعد میگرے میں نے چار شادیاں کیں۔

اولاد کرام رحمہم اللہ تعالیٰ

حضور غوث اعظم ﷺ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کے ہاں انچاں ۲۹ بچے ہوئے، جن میں سے بیس بڑے تھے، اور باقی لڑکیاں تھیں، آپ کی اولاد نزینہ میں سے مشہور یہ ہیں:

(۱) حضرت شیخ عبدالوهاب رحمۃ اللہ علیہ (۲) حضرت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ (۳) حضرت شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ (۴) حضرت شیخ عبدالدرہم رحمۃ اللہ علیہ (۵) حضرت شیخ عبدالجبار رحمۃ اللہ علیہ (۶) حضرت شیخ محمد عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ (۷) حضرت شیخ سعید رحمۃ اللہ علیہ (۸) حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ (۹) حضرت شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ (۱۰) حضرت شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ مصنفو کتاب نے صرف ۱۳ صاحبزادگان کے اسماء گرامی لکھ کر اجمالی تعارف بیان کیا۔ فقیر او ایسی غفرلنہ کچھ تفصیلی حالات عرض کرتا ہے۔

(۱) حضرت شیخ عبدالوهاب رحمۃ اللہ علیہ

آپ سب سے بڑے صاحبزادہ ہیں، آپ کی ولادت بمقام بغداد ماه شعبان ۵۲۳ھ ہجری میں ہوئی۔

تحصیل علوم

آپ نے زیادہ تر اپنے والد ماجد کو حدیث سنائی اور انہیں سے تفقہ حاصل کیا، علاوہ ازیں آپ نے ابن الحسین و ابن الرعوی و ابو غالب ابن النبارحة اللہ علیہ وغیرہ شیوخ کو بھی حدیث سنائی، تحصیل علوم کے لئے آپ نے عجم کے ڈور دراز بلا دکا بھی سفر کیا۔

درس و تدریس

الغرض تحصیل علوم کے بعد آپ نے بیس سال کی عمر میں ۵۳۳ھ کے اندر اپنے والد ماجد کے سامنے انہی کے مدرسہ میں نہایت سرگرمی اور جدوجہد کے ساتھ درس و تدریس کا کام شروع کر دیا، پھر اپنے والد بزرگوار کی وفات کے بعد وعظ گوئی کی، فتوے دیئے۔

آپ وعظ گوئی میں یہ طولی رکھتے تھے، آپ کا وعظ دلچسپ اور ظرافت آمیز ہوا کرتا تھا، شیریں کلام کے لقب سے آپ مشہور تھے۔

بہت سے لوگوں نے آپ سے علم و فضل حاصل کیا، چنانچہ شریف حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن عبد الواسع بن امیر کار غیر علماء آپ ہی کے تلامذہ میں سے ہیں۔

اخلاق و عادات

آپ نہایت بامرقت، کریم القفس، حليم الطبع، منکر المزاج، صاف گو اور صاحبِ جود و سخا شخص تھے خلیفہ ناصر الدین نے ستم رسیدہ مظلوموں کی امداد و معاونت اور ان کی فریاد رسمی پر آپ کو مأمور کیا تھا۔

(ذہبی و ابن خلیل و طبقات ابن رجب)

وفات

آپ نے بغداد کے اندر پچھیس شوال ۵۹۳ھ ہجری میں شب کے وقت وفات پائی، اور وہیں مقبرہ حلبہ میں مدفون ہوئے۔

اولاد

آپ کی اولاد میں سے مشہور شیخ عبدالسلام ہیں، آٹھویں الحجہ ۵۲۸ھ کو آپ تولد ہوئے، اور تین رجب المرجب ۱۱۸ھ کو بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی، اور مقبرہ حلبہ میں مدفون ہوئے۔

آپ حنبیلی المذهب تھے، آپ نے اپنے والد ماجد اور اپنے جدا مجدد حضرت غوث اعظم ﷺ سے تفقہ حاصل کیا، پھر آپ نے مدت تک درس و تدریس کے کام کو سرانجام دیا، متعدد امور مذہبی کے آپ متولی رہے، چنانچہ کسوہ بیت اللہ شریف کے بھی آپ متولی رہے، اس اثناء میں آپ نے حج بھی ادا کیا۔

(2) حضرت شیخ حافظ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ

ولادت

آپ کے صاحبزادوں میں سے قدوة العارفین عمدۃ الکاملین حضرت شیخ حافظ عبدالرزاق ہیں، آپ ۱۸۰ ذی قعده

آپ کا علم و فضل

آپ نے اپنے والد بزرگوار سے تفقہ حاصل کیا، اور حدیث سنی، علاوہ ازیں آپ نے ابو الحسن محمد بن الصافع رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو الفضل محمد الارسوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو القاسم سعید بن النبار رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابو الفضل محمد بن ناصر رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن الزاغواني رحمۃ اللہ علیہ، ابو المظفر محمد الہاشمی، ابو المعانی احمد بن علی بن اسمن رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الفتح محمد بن البطر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بھی حدیث سنی۔

آپ حافظ حدیث و فقیرہ حنبیلی المذهب تھے، آپ نے حدیث سنائی اور لکھوائی بھی، آپ درس و مدرس اور بحث مباحثہ کا مشغلہ بھی رکھتے تھے۔

آپ نے بہت سے لوگوں کو اجازت حدیث دی، چنانچہ شیخ شمس الدین عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ کمال عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ اور اسماعیل اعقالانی وغیرہ نے آپ سے اجازت حدیث حاصل کی۔

اخلاق حسنہ

آپ ثقاہت و صداقت، تواضع و انکسار، عصمت و عفاف اور صبر و شکر میں مشہور تھے، آپ عموماً عوامِ الناس سے کنارہ کش رہتے اور ضروریاتِ دینی کے سوا تھوڑی دیر کے لئے کبھی باہر نہ نکلتے، باوجود عمرت کے بھی آپ مجسمہ سخاوت تھے، طلباء سے نہایت اُنس رکھتے تھے۔

وفات

آپ نے ۶ شوال ۲۰۳ ھ کو ہفتہ کے دن بغدادی میں وفات پائی، اور وہیں بابِ حرب میں آپ مدفون ہوئے۔ ابن نجارتے نے بیان کیا ہے، کہ آپ کے جنازہ کی نماز پر اس قدر خلقت جمع ہو گئی تھی کہ مجبوراً یہ رون شہر میں آپ کا جنازہ لے جا کر نماز پڑھی گئی، لیکن پھر بھی ہزار ہاشمیان محرم رہ گئے، اس لئے کہ کثرتِ هجوم کی وجہ سے آپ کے جنازہ کو جامع رصافہ، بابِ تربةِ الخلفاء، بابِ الحرمیم، مقبرہ امام احمد بن حنبل وغیرہ مختلف مقامات میں لے جا کر کئی بار نماز پڑھی گئی۔ آپ کے جنازہ میں اس قدر لوگ شریک تھے کہ کبھی جمعہ و عیدین میں بھی نہیں ہوئے تھے۔

حضرت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد

(۱) شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ

آپ کے صاحبزادوں میں سے شیخ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ۵۵۳ ھ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور ۹ جمادی الآخر ۲۱۰ ھ کو آپ داعیِ اجل کو لیکیک کہہ کر دارِ ابدی کی جانب کوچ کر گئے، اور اپنے والدِ ماجد کے قریب مقبرہ حلبہ میں مدفون ہوئے، آپ نے بہت سے شیوخ سے حدیث سنی، آپ اپنے وقت کے قطب تھے۔

(۲) شیخ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ

منجملہ آپ کے صاحبزادوں کے شیخ عبدالرحیم ہیں، آپ نے حدیث شہرہ بنت الابری اور خدیجہ بنت احمد انہروانی رحمۃ اللہ علیہا وغیرہ سے سنی، آپ کا تولد ۱۳ اذیقعده ۵۳۰ ھ کو ہوا، اور بغدادی میں ۲۰۶ ھ کو آپ نے وفات پائی، اور بابِ حرب میں مدفون ہوئے۔

(۳) شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ

مholmد آپ کے صاحبزادوں کے شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ نے بہت سے لوگوں سے تفقہ حاصل کیا، اور حدیث سنی اور بیان کی، آپ زہد و تقویٰ اور فقر و تصوف سے آراستہ تھے، شریعت و طریقت کے بڑے پابند تھے، گوشہ نشینی آپ کا شیوه تھا۔

بغداد ہی میں آپ کا انتقال ہوا، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ میں مدفون ہوئے، آپ کی تاریخ تولد یا سن وفات کے متعلق کچھ پتہ نہیں۔

(۴) شیخ ابوالمحاسن فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ

مholmد آپ کے صاحبزادوں کے شیخ ابوالمحاسن فضل اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ نے اپنے والد ماجد، اپنے عم بزرگ اور دیگر بہت سے شیوخ سے حدیث سنی، ماہ صفر ۲۰۶ھ کو بغداد ہی میں آپ تا تاریوں کے ہاتھ شہید ہوئے۔

(۵) شیخ ابو صالح نصر رحمۃ اللہ علیہ

مholmد آپ کے صاحبزادوں کے حضرت شیخ ابو صالح نصر رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ کی ولادت ۱۳ اربع الاول ۵۳۲ھ کو ہوئی، آپ نے اپنے والد وعم بزرگوار سے بالخصوص اور فضلاً وقت سے بالعوم حدیث سنی، آپ حنبلی المذهب تھے، درس و تدریس اور بحث و مباحثہ کا بھی مشغلہ کیا کرتے تھے۔

آنٹھذ یقعد ۲۲۲ھ کو آپ خلیفۃ الظاہر با مراللہ کی طرف سے قاضی القضاۃ مقرر ہوئے، اور خلیفہ موصوف کی حیات تک آپ منصب قضاپر مامور ہے، آپ حنابلہ میں سے پہلے شخص ہیں جو قاضی القضاۃ کے لقب سے پکارے گئے خلیفہ المستنصر باللہ نے اپنے ابتدائی عہد خلافت سے چار ماہ کے بعد آپ کو منصب خلافت سے معزول کر دیا تھا، باوجود اس کے کہ آپ منصب قضاپر مامور تھے، لیکن آپ کے اخلاق و عادات، آپ کے جسم و عنفو، اور آپ کی تواضع و اکساری میں مطلقاً کچھ بھی تغیر نہیں ہوا تھا۔

آپ اعلیٰ درجہ کے محقق، عارف، فقیہ، مناظر، محدث، عابد، زاہد، مقرر، محرر، واعظ، شیریں کلام، خوش طبع اور متین تھے فروعاتِ نذریہ میں آپ کی معلومات نہایت وسیع تھی۔

جب آپ کو خلیفہ المستنصر باللہ نے منصب قضاۓ معزول کیا تو آپ نے اس بارگاں کے سر سے اُتر جانے پر حسب ذیل اشعار میں شکریہ ادا کیا۔

حمدت اللہ عزوجل لما
قضی لی بالخلاص من القضاۃ
وللمستنصر المنصور اشکر
واد عواف فوق معتاد الدعااء

ترجمہ

(۱) میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اُس نے قضاء سے نجات پانا میرے لئے مقرر کیا تھا۔ (۲) میں خلیفہ مستنصر منصور کا بھی مٹکوڑ ہوں اور اُس کے لئے معمول سے زیادہ دعائے خیر کرتا ہوں۔

<http://www.alahazrat.net> معزول ہونے کے بعد آپ مدرسہ حتابلہ میں درس و تدریس اور افتاء کا کام کرنے لگے۔ فقہ میں آپ نے کتاب ارشاد المبتدئین تصنیف کی، جماعت کیشہ نے آپ سے تفقہ حاصل کیا، انہی امور کا بیان کرتے ہوئے صریح نے آپ کی مدح میں قصیدہ لامیہ لکھا، جس کا ایک شعر ذیل میں درج ہے۔

وفی عصر ناقد کان فی الفقه قدوة

ابو صالح ذحدر ذکل مؤمل

یعنی اس وقت فقہ میں حضرت شیخ ابو صالح نصر امام وقت ہیں، وہ ہر ایک امیدوار کے لئے معین و مددگار ہیں۔

معزولی کے پچھے عرصہ بعد خلیفہ مستنصر نے آپ کو اپنے مسافر خانہ کا جو دیر روم کے نام سے مشہور تھا، متولی کر دیا تھا، گواپ کو اس نے منصب قضاۓ معزول کر دیا تھا، تاہم اس کی نظروں میں آپ کی ولیٰ ہی عزّت و وقعت تھی۔

۶ شوال ۲۶۳ھ کو بغداد ہی میں آپ نے وفات پائی اور باب حرب میں محفوظ ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ ابو نصر محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو دونوں کے دونوں اعلیٰ درجہ کے عالم تھے، عبادت و ریاضت، زہد و تقویٰ، انکسار اور وجد و جذبہ میں ایک دوسرے پر سبقت لئے ہوئے تھے، درس و تدریس اور افتاء کا مشغله رکھتے تھے۔

آپ کی ایک صاحبزادی تھیں، جن کا نام زینب تھا، خوش سیرت کریم النفس وجیہ، متواضع اور نہایت متین تھیں۔

(3) حضرت شیخ ابو بکر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ

ولادت

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں سے حضرت شیخ ابو بکر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں ۲۸ شوال ۵۳۲ھ میں آپ کا تولد ہوا۔

علم و فضل

آپ نے اپنے والد ماجد اور ابی منصور عبد الرحمن بن محمد القرزاڑی وغیرہ سے حدیث سنی، اور تفقہ حاصل کیا، تحصیل علوم کے بعد آپ نے وعظ بھی کہا، درس و تدریس کا کام بھی انجام دیا، بہت سے علماء و فضلاء آپ سے مستفید ہوئے۔

آپ نہایت ہی متقدی، متدين، صالح، مترشح، پرہیزگار اور صاحب ریاضت و مجاہدہ تھے، انکسار و انتصار اور غربت و خاموشی کے ساتھ موصوف تھے۔ ۵۸۰ھ میں آپ بغداد کو خیر باد کہہ کر جبال چلے گئے، اور وہیں آپ نے سکونت اختیار کی۔

وفات

۱۸ ربیع الاول ۶۰۲ھ کو جبال میں آپ نے وفات پائی اور وہیں محفوظ ہوئے، آپ نے عسقلان کی جنگ میں حصہ لیا اور قدس کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے۔ بغداد میں نقیاء آپ کی اولاد سے ہیں۔

آپ کی اولاد

آپ کے صاحبزادوں میں سے شیخ محمد ہیں آپ کا انتقال بھی جبال میں ہوا، اور وہیں محفوظ ہوئے آپ جید عالم مستقیم الاحوال، قائم للیل صائم النہار تھے، آپ سے لوگوں کو باطنی علوم کے بہت کچھ فوائد پہنچے، آپ کے ایک صاحبزادہ تھے جس کا نام شیخ صالح شریعت تھا۔

حضرت شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صاحبزادی بھی تھیں، جن کا نام شیخہ النازہ تھا۔

(4) حضرت شیخ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے صاحبزادوں میں سے حضرت شیخ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

تحصیل علوم اور درس و تدریس

آپ نے اپنے والد بزرگوار اور ابوالحسن بن خرماد سے حدیث سنی، اور تفہم حاصل کیا، پھر آپ نے درس و تدریس کا کام شروع کر دیا، حدیث بیان کی، فتوے دیئے، وعظ کہا، اور تصوف میں جواہر الاسرار اور لطائف الانوار وغیرہ کتب تصنیف کیں۔ پھر آپ مصر چلے گئے اور وہاں جا کر بھی آپ نے بکمال فصاحت و بلاغت وعظ گوئی کی، اور حدیث بھی بیان کی۔

اہالیانِ مصر میں سے ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ، ربیعہ بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مسافر بن عمر المصری رحمۃ اللہ علیہ، حامد بن احمد الارتابی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن محمد الفقیری الحمد رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحالمق بن صالح القرشی الاموی المصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے آپ سے حدیث سنی۔

مذاق شعر و سخن

آپ کو شعر و سخن کا بھی مذاق تھا، چنانچہ مندرجہ ذیل اشعار آپ ہی کے کہے ہوئے ہیں:

تحمل سلامی نحو ارض احبتی

قل لهم ان الغريب مشوق

ترجمہ

تم میرے احباب کی طرف جاؤ، تو ان سے میرا سلام عرض کر کے یہ کہہ دینا کہ وہ غریب الوطن تمہارے اشتیاق محبت سے بھرا ہوا ہے۔

نان سئلو اکم کیف حالی بعدهم

فقولوا بنیدران الفراق حدیق

ترجمہ

پھر اگر وہ تم سے میرا اور کچھ حال دریافت کریں، تو کہہ دینا، کہ وہ بس تمہاری آتش فراق سے سوزاں ہے۔

فلیس له الف یسیدر بقدر بهم

ولیس له نحو الرجوع طریق

ترجمہ

اس کا کوئی بھی ایسا رفیق نہیں ہے، جو اسے اس کے احباب کے پاس پہنچا دے، غرض اس کے تمہارے پاس آنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔

غريب يقاسي الهم في كل بلدة

ومن لغريب في البلاد صديق

ترجمہ

وفات

تاریخ وفات کے متعلق ابن نجاشا پنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں، کہ بلاد اجنبیہ میں مسافر کا کون لمحوار بنتا ہے بارہویں رمضان المبارک ۳۷۵ھ / ۱۸۷۱ء کو آپ نے وفات پائی۔

آپ کی ذریت

بلاد حلب خصوصاً قریہ یا عویش کئی قبلیے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو حضرت شیخ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی ذریت سے ثابت کرتے ہیں، اور عام و خاص بھی ان کی عزت و وقت کرتے ہیں، مگر ان کی نسبت تحقیق معلوم نہیں کہ آیا فی الحقيقة وہ حضرت شیخ عیسیٰ علیہ الرحمۃ کی اولاد سے ہیں، یا کسی اور کسی ذریت سے۔

(5) حضرت شیخ عبدالجبار رحمۃ اللہ علیہ

حضور غوثیت مآب ۴۶ھ کے صاحبزادوں میں سے حضرت شیخ عبدالجبار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

تحصیل علم

آپ نے اپنے والد بزرگوار سے تفقہ حاصل کیا، اور شیخ ابو منصور رحمۃ اللہ علیہ اور قزاز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے حدیث سُنی، آپ خوشنویں تھے، آپ صوفی منش اور صاحبِ ریاضت و مجاہد تھے، تشرع و اتباع، تقبل و انقطاع، فقر و قناعت اور اکسار مسکن میں یگانہ وقت تھے۔

وفات

آپ کی وفات عین عالم شباب میں مورخہ ۱۹ اذی الحجه ۴۷۵ھ کو ہوئی اور بغداد کے اندر ہی محلہ حلہ میں اپنے والد بزرگوار کے مسافرخانہ میں مدفون ہوئے۔

(6) حضرت شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ

ولادت

منجمدہ آپ کے صاحبزادوں کے حضرت شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ کی ولادت ۵۵۰ھ میں ہوئی۔

علم وفضل

آپ نے اپنے والد ماجد اور شیخ محمد عبدالباقي رحمۃ اللہ علیہ سے تفقہ حاصل کیا اور حدیث سُنی، آپ حسن سیرت و مکارم اخلاق میں یگانہ و اکسار دایشاںہ نفس میں منفرد وقت تھے۔ بہت سے لوگوں کو آپ سے استفادہ ہوا، آپ اپنے تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، آپ اپنے صفرن سے ہی مصر چلے گئے تھے، اور وہیں پر آپ کے فرزند تولد ہوا، جس کا آپ نے عبد القادر نام رکھا تھا، پھر آپ اپنی کبرنی میں مع فرزند بغداد والپس آئے، اور تادم حیات یہیں پر مقیم رہے۔

بشارت ولادت

شیخ عبدالوباب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہمارے والد بزرگوار سخت علیل ہوئے، حتیٰ کہ نصیب اعداء بچنے تک کی کوئی امید باقی نہ رہی اس لئے ہم سب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے آبدیدہ ہو رہے تھے، کہ اتنے میں آپ کو کسی قدر افاق ہوا، آپ نے فرمایا، کہ میں ابھی مروں گا نہیں، تم گریہ وزاری نہ کرو، میری پشت میں ابھی یحییٰ باقی ہے اس کا تولد ہونا

ضروری ہے۔

وفات

آپ نے ۱۰۰ھ میں وفات پائی، اور اپنے والد بزرگوار کے مسافرخانہ میں اپنے برادر مکرم شیخ عبدالوہاب کے ہم پہلو مدفن ہوئے۔

(7) حضرت شیخ موسیٰ رحمہ اللہ علیہ

ولادت

آپ کی ولادت ربیع الاول ۵۳۵ھ میں ہوئی۔

علم دین

آپ نے اپنے والد بزرگوار اور شیخ سعید بن النبارحة اللہ علیہ سے تفقہ حاصل کیا، اور حدیث سنی، آپ دمشق میں چلے گئے تھے، اور وہیں آپ نے توطن بھی اختیار کیا، آپ وہاں افادہ و افاضہ طالبین میں مشغول رہے، آپ کثیر السکوت اور طویل المراقبہ تھے، اکسار و افتخار سے متصف تھے، مذہب آپ کا حنبعلی تھا۔

وفات

اخیر عمر میں آپ امراض کے آما جگاہ بنے ہوئے تھے، شروع جمادی الآخر ۱۱۸ھ محلہ عقبیہ دمشق میں آپ نے وفات پائی، مدرسہ مجاہدیہ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور جبل قاسیون میں آپ مدفن ہوئے آپ نے اپنے برادران میں سب سے اخیر میں وفات پائی۔

(8) حضرت شیخ ابراهیم رحمہ اللہ علیہ

آپ نے صرف اپنے والد بزرگوار ہی سے تفقہ حاصل کیا، اور حدیث سنی، آپ صاحب ذوق و مواجهہ اور صاحب سرور و ولولہ تھے، رات کا وقت اکثر طور پر توبہ و استغفار اور گریہ وزاری میں گزارا کرتے تھے، غربت و خاموشی کے ساتھ موصوف تھے، بہت سے لوگوں کو آپ کے ذریعہ سے فنا و بقا حاصل ہوئی، آپ واسطہ چلے گئے اور ۹۵۲ھ کے ۱۱ء میں وہیں پر وفات پائی۔

(9) حضرت شیخ محمد رحمہ اللہ علیہ

آپ نے اپنے والد ماجد سے تفقہ حاصل کیا اور سعید بن البدنا اور ابوالوقت وغیرہ شیوخ سے حدیث سنی۔ بہت سے لوگ آپ سے مستفید ہوئے۔ ۲۵ ذی قعده ۲۰۰ھ کو بغداد میں انتقال ہوا اور وہیں مقبرہ میں مدفن ہیں۔

(10) شیخ عبدالرحمن رحمہ اللہ علیہ

(11) شیخ صالح رحمہ اللہ علیہ

(12) شیخ عبدالغفرنگی رحمہ اللہ علیہ

ان دونوں کا ذکر فتوح الغیب میں ہے لیکن تاریخ ولادت وفاتات معلوم نہیں۔

(13) حضرت شیخ عبداللہ رحمہ اللہ علیہ

آپ نے بھی اپنے والد ماجد اور سعید بن النباء رحمہ اللہ علیہ سے حدیث سنی، آپ ظاہری و باطنی علوم کے جامع

اور صاحب ریاضت و مجاہد تھے، بکثرت لوگوں نے آپ سے فیض و برکات حاصل کئے۔

آپ کی ولادت ۱۹۵۰ھ کو ہوئی، اور ۷ اصفر ۱۹۵۸ھ کو بغداد کے اندر آپ نے انتقال فرمایا۔

امام محبی الدین شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کے والد گرامی حضور غوث اعظم ﷺ کے نیازمندوں سے تھے لیکن اولاد سے محروم تھے بارگاہِ غوثیت ماب میں عرض کر دی تو آپ نے فرمایا کہ اپنا کاندھا میرے کاندھے سے ملائے۔ فرمایا کہ میرا ایک بیٹا میری پشت میں تھا وہ آپ کو دے دیا۔ اس معنی پر حضرت شیخ اکبر ابن العربي رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی اولاد سے ہیں۔ آپ بڑے ولی کامل اور امام الکاشفین مشہور ہیں دمشق میں مزار ہے۔ فقیر بارہ آپ کے مزار کی زیارت سے مشرف ہوا ہے۔

وصال

حضور غوث اعظم ﷺ کی زندگی مبارک عبادت و طاعتِ الٰہی میں بسر ہوئی۔ بغداد شریف میں ۸ ربیع الآخر ۱۴۵۵ھ ۱۴۶۲ء شب ہفتہ میں وصال ہوا اور رات کو ہی مدفن ہوئے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ رات کو مدفن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اڑدہام کثیر تھا۔ یہاں تک کہ بغداد کی گلیاں، کوچے، بازار اور گھروں میں آدمی ہی آدمی تھے۔ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی مجبور رات کو ہی دفن کرتا پڑا۔ ابن النجاشی نے فرمایا کہ آپ کی تجھیز و تکفین سے رات کو فراغت ہوئی اور آپ کے صاحزادے شیخ عبدالوهاب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی اولاد، تلامذہ، مریدین، خلفاء اور بیشمار مخلوق نے جنازہ میں شرکت کی۔ آپ کے مدرسہ میں ہی آپ کو دفنایا گیا اور رات کو ہی دروازہ بند کر دیا گیا۔ دن چڑھے دروازہ کھولا تو بیشمار خلق خداوند پڑی اور سارا دن عوام مزار کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے۔

آپ کی وفات شریف مستجد بالله ابوالمظفر یوسف بن المقتضی اور اللہ بن المستظر بالله العباسی کے دور حکومت میں ہوئی۔

تبصرہ اویسی غفرانہ

مصنف نے ۸ ربیع الآخر وفات لکھی ہے حالانکہ دوسری اکثر کتب میں ۱۴۵۵ ربیع الآخر مشہور ہے۔

۱۴۵۵ھ ۱۴۶۲ء کو آپ بیمار ہو گئے۔ علات کے دوران آپ کے صاحزادہ والا شان حضرت سیدی شیخ عبدالوهاب علیہ الرحمۃ نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا حضور والا! مجھے کچھ وصیتیں ارشاد فرمائیے جس پر آپ کے انتقال کے بعد عمل کروں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا:

”عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَلَا تُخْفِ احْدًا التَّوْحِيدَ التَّوْحِيدَ وَاجْمَاعَ الْكُلِّ عَلَى التَّوْحِيدِ“

اے برخوردار! اللہ کے تقویٰ کو اپنے پر لازم کرو۔ اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کرو، توحید کو لازم پکڑو، کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، نیز فرمایا کہ جب دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے تو اس سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی اور اس کے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی۔

بعد ازاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آس پاس سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میں ظاہرا تمہارے ساتھ مگر باطنًا تمہارے سوا کے ساتھ یعنی اللہ کریم کے ساتھ ہوں۔ نیز فرمایا بے شک میرے پاس تمہارے علاوہ کچھ اور حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کے لئے جگہ فراخ کر دو۔ اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ۔ اس جگہ بہت بڑی رحمت ہے۔ ان پر جگہ

کو بیگنے کرو۔ بار بار آپ یہ الفاظ فرماتے تھے۔

شیخ ابوالقاسم ولف بن احمد بن محمد بغدادی حرمی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا شیخ مجی الدین عبدال قادر رضی اللہ عنہ رمضان ۶۵۵ھ میں بیمار ہو گئے۔ جب دو شنبہ کو نتیس تاریخ ہوئی۔ اور ہم بھی آپ کے پاس تھے اور اُس دن شیخ علی بن ابی نصر اہمیتی، شیخ نجیب الدین عبدالقاہر سہروردی، شیخ ابو الحسن جو سقی اور قاضی ابو یعلیٰ محمد بن محمد بن عبدالبراء بھی حاضرِ خدمت تھے۔ ایک شخص صاحب وقار آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا۔

”اے اللہ کے ولی **السلام علیک**، میں ماہ رمضان ہوں۔ آپ سے اس امر کی معافی چاہتا ہوں، جو آپ پر مجھ میں مقدر کیا گیا ہے اور آپ سے جدا ہوتا ہوں آپ سے یہ میری آخری ملاقات ہے۔“
اس کی تصدیق آپ کے قصیدہ غوثیہ شریف کے اس شعر سے ہوتی ہے

ما فيها شهور ولا دهور ☆ لا ثمر ولا تنفی إلا أثالی

کوئی مہینہ اور زمانہ نہیں گذرتا کہ وہ میرے پاس نہ آئے۔

تاریخ وفات

حضرت کی تاریخ وفات تو مختلف شعرا نے قلم بند کی ہے مگر خوف طوالت سے ایک دوپہری اکتفا کیا جاتا ہے، ایک فارسی شاعر یوں لکھتا ہے۔

سلطانِ عصر شاہِ زمان قطبِ اولیاء ☆ کامد وفات روز قیامت علامتے

تاریخ سال وقت وفائش چو خواستم ☆ گفتاسروش غیب و فائش قیامتے

ایک عربی شاعر نے تو کمال ہی کر دیا ہے، ایک ہی بیت میں آپ کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات اور مقدار عمر کمال فصاحت سے قلم بند کر دی ہے وہ ہے

ان باز اللہ سلطان الرجال ☆ جاء فی عشق ومات فی کمال

ترجمہ

بیشک اللہ کا باز مردوں کا سلطان ہے، وہ عشق میں آیا، اور اُس نے کمال میں وفات پائی۔
اس بیت میں کلمہ عشق کے اعداد چار سو ستر ہیں، جو آپ کی تاریخ ولادت ہے، اور کلمہ کمال کے عدد اکانوے ہیں، جو عمر شریف کی مقدار ہے، اور کلمہ عشق کو کلمہ کمال کے ساتھ ملانے سے پانچ سو اکٹھے اعداد نکلتے ہیں، جو آپ کی تاریخ وفات ہے۔

شیخ رفاعیؑ کی مدح سرانی

شیخ محمد بن یحییٰ القادر نے اپنی کتاب ”قلائد الجواہر“ میں لکھا ہے کہ شیخ عبداللہ البطاطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حضور غوث اعظم شیخ عبدال قادر جیلانیؑ کی زندگی میں امام عبیدہ (نام مقام) گیا اور حضرت غوث زمان شیخ احمد رفائلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چند روز مقيم رہا۔ ایک دن مجھے شیخ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ عبدال قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیان کیجئے۔ میں نے چند مناقب عرض کئے۔ ہماری گفتگو کے دوران ایک شخص آیا اور کہا کہ اس شیخ یعنی احمد رفائلی رحمۃ اللہ علیہ کے سوابق کسی کے مناقب ہمارے سامنے بیان نہ کر۔ شیخ احمد رفائلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی طرف

غبنا کہ ہو کر فرمایا کہ حضرت شیخ عبدالقدار جیلانی کے مرتبہ کو کون پہنچ سکتا ہے وہ تو دائیں جانب بحر شریعت اور با میں جانب بحقیقت ہیں وہ جس طرف سے چاہیں چلو بھر لیں۔ اور شیخ عبدالقدار جیلانی کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت سید نارفائی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ آپ ہمیشہ اپنے بھائی کی اولاد یعنی ابراہیم اعزب کی اولاد اور دیگر برادران اور ان کی اولاد اور اپنے مریدوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی وصیت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص آپ سے بغداد کے سفر کے لئے آپ سے رخصت ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم بغداد میں جاؤ تو سب سے پہلے اگر حضرت غوث اعظم زندہ ہوں تو ان کی اگرفوت ہو چکے ہوں تو ان کی قبر انور کی زیارت کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بغداد جائے اور آپ کی زیارت نہ کرے اس کا حال سلب ہو جائے گا، اگرچہ مرنے کے کچھ ہی پہلے سلب ہو جائے، اس کے بعد غوث اعظم کا قول نقل فرمایا کہ بے نصیب ہے وہ جس نے آپ کی زیارت نہ کی۔

شیخ احمد رفاعی علیہ الرحمۃ کی زیارت کا خیال

شیخ محمد بن الحضر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم کی خدمتِ اقدس میں تھا کہ وقت شیخ احمد رفاعی علیہ الرحمۃ کی زیارت کا دل میں خیال آیا تو آپ نے فرمایا ”یا حضر هاتری الشیخ احمد“ اے خضر! لو شیخ احمد کی زیارت کرو۔ میں نے آپ کی آستین کی طرف نظر انہا کردیکھا تو مجھے ایک ذی وقار بزرگ نظر آئے۔ میں نے اٹھ کر ان کو سلام عرض کیا اور ان سے مصافحہ کیا۔ تو شیخ احمد رفاعی علیہ الرحمۃ نے مجھے فرمایا:

”یا حضر من یرى الشیخ عبدالقدار سیدا ولیاء اللہ تعالیٰ یتمنی رویة مثلی و هل انا الا من رعیته“
 اے خضر! جو شخص شہنشاہ اولیاء اللہ شیخ عبدالقدار جیلانی کی زیارت سے مشرف ہو اُس کو میری زیارت کرنے کی کیا آرزو۔ اور میں بھی حضرت کی ہی رعیت میں سے ہوں۔ یہ فرمادی کرو میری نظروں سے غائب ہو گئے۔
 حضرت غوث الشقین کے بعد جب شیخ احمد رفاعی کی خدمت میں حاضر ہوا تو بالکل وہی شکل و صورت تھی جس کو میں نے بغداد شریف آپ کی آستین میں دیکھا تھا۔ حاضر ہونے پر شیخ احمد رفاعی علیہ الرحمۃ نے مجھے ارشاد فرمایا:
 ”الم تکلف الاولی“ کیا تم کو میری پہلی ملاقات کافی نہیں ہوئی (فَلَامَ الْجَوَاهِرَ صفحہ ۲۶)

مُوْمَنًا يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ شُدُّى

از خطا و سهو ایمن آمدی!

ترجمہ

اے مومن نورِ الٰہی سے دیکھنے والی آنکھ پیدا کر پھر ہر خطاو سہو سے بے غم ہو جا۔

مزید امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کا رسالہ ”طردا لاقاعی“ کا مطالعہ فرمائیے۔

دیگر اولیاء کرام کی مدح سرانی

(۱) ابوالربيع سلیمانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ عبدالقدار سردار زمانہ ہیں مقامِ غنا کے مرد کامل ہیں اور اس شعبہ کا آپ کو بہت بڑا علم حاصل ہے اور بڑے بلند قدر معاشر کے حامل ہیں۔ (۲) ابو طاہر محمد بن الحسن انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے شیخ قرشی سے کہا کہ شیخ عبدالقدار سردار زمانہ ہیں انہوں نے فرمایا ہاں بلکہ آپ جملہ اولیاء سے اعلیٰ و اکمل ہیں

اور علماء میں آپ ورع وزاہد ہیں اور عارفین کے تو پیشو اور ان سے اعلم و اتم ہیں اور مشائخ میں امکن و قوی ہیں۔ (۳) صحیح ابو الحسن جوستی نے فرمایا کہ میرے کان بہرے ہوں اور میری آنکھیں انڈھی ہوں اگر میں نے سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ جیسا کوئی اور دیکھا ہو۔ مصنف نے اسی پر رسالہ ختم کیا، فقیر چند اضافے کرتا ہے تاکہ حضور غوث اعظم ﷺ کے حضور نذرانہ پیش ہوا اور نظر کرم ہو گئی تو فقیر کا بیڑا اپار ہے۔

ہمارے دور میں بعض بدجنت سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی ﷺ کی شان گھٹانے کی فکر میں ہیں اور خود کو کہلواتے بھی ہیں، نیاز منداں اولیاء۔ لیکن وہ اپنی بر بادی ہی کر رہے ہیں ورنہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لئے بھی یہ شعر خوب ہے

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چہ چا تیرا

اضافہ اویسی غفرانہ

کلام الاولیاء فی مناقب غوث الوری (رضی اللہ عنہم)

غوث اعظم در میان اولیاء ○ چُون محمد در میان اولیاء

گویم کمال توجہ غوث الشقلینا ○ محبوب خدا ابن حسن آل حسینا

عارف جامی رحمۃ اللہ علیہ

ایں بار گاہ حضرت غوث الشقلین است ○ نقد کمر حیدر و نسل حسین است

مادرش حسینی نسب است و پیدراو ○ اولاد حسن یعنی کریم الابوین است

حضور سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی ﷺ

یا غوثِ معظم تو رحد می مختارِ نبی مختار خدا

سلطان دو عالم قطبُ العلیٰ حیراں ز جالتِ ارض و سما

حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ

من آدم پیش تو سلطان عاشقان☆ ذات تو ہست قبلہ ایمان عاشقان

حضرت بھاء الدین ذکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ

بیکار اس اگر جوئی تو در دنیا دیں☆ ہست مجی الدین سید تاج سرداراں یقین

حضرت سلطان باہو ﷺ

شفع امت و سرور بود آں شاہ جیلانی

تعالی اللہ چہا قادر ت خداش کروار زانی

شیخ عبد الحق محدث دھلوی رحمۃ اللہ علیہ

غوثِ اعظم دلیل راہ یقین☆ گن یقین رہبر اکابر دیں

شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللہ علیہ

گر کے واللہ بعالم از مے عرفانی است ☆ از طفیل شہر عبدالقدار گیلانی است

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمة الله عليه
قبلہ اہل صفا غوث الشقین ☆ دیگر ہمہ جا حضرت غوث الشقین
صاحب بہجۃ الاسرار رحمة الله عليه نے فرمایا

عبد له فوق الممتازی رتبہ
وله المماجد والفحار الافخر
وله الحقائق والطرائق فی الهدی
وله المعارف كالکواكب تزہر

ترجمہ

آپ ان بندوں میں سے تھے، جن کا مرتبہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، محاسن اخلاق اور فضائل عالیہ آپ کو حاصل تھے، حقیقت و طریقت کے آپ راہنماء تھے اور آپ کے حقائق و معارف ستاروں کی طرح روشن ہے۔
ان کے علاوہ اولیائے عرب و عجم معاصرین اور متفکرین میں و متاخرین رحمہم اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں بہت کچھ فرمایا۔
فقیر کا مجموعہ "کلام الاکابر فی مناقب الشیخ عبدالقدار" پڑھئے۔

آخری گذارش

جی تو چاہتا ہے کہ بہت کچھ لکھوں لیکن چونکہ یہ رسالہ ایک عربی اقطاب اربعہ کے ایک جزو کا ترجمہ ہے اسی لئے اس کی ترجمانی کی حد تک اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ناشر کو اللہ تعالیٰ دارین کی فلاح و بہبودی نصیب فرمائے اور ناظرین کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کا موقعہ بخشئے۔ (آمین)

مدینے کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ

بہاول پور - پاکستان

۲ جمادی الآخر ۱۴۲۱ھ ، ۲ ستمبر ۲۰۰۰ء بروز ہفتہ

☆☆☆☆☆☆